

ام احمد رضا محدث بریوی کا

# عَظِيمُ صَلَوةٍ مُتَصْوِّبةٍ

ڈاکٹر محمد ہارون

چیئرمین رضا اکیڈمی، انگلستان



ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی

ڈائیریکٹر الرضا اسلامک سینٹر یونیورسٹی  
Jamaia Hidayatullah

ادارہ سُوویہ

۱۹۹۷ء/۱۴۲۸ھ۔ ۲۵، ۵۔ ای، ناظم آباد، کراچی اسلامی جمہوریہ پاکستان

*<http://t.me/Tehqiqat>*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِبْرَاهِيمٌ اَلْأَقْيَمُ

امام احمد رضا محدث بریلوی (۱۹۲۱ھ/۱۳۳۰ء) عالم اسلام کے عظیم مدرس تھے۔ آپ کے تذہب اور دور اندازہ اس مقالے سے لگایا جاسکتا ہے جو کلکتہ سے موصول ہونے والے حاجی فشی لعل خان کے سوالات کے جواب میں آپ نے قلم بند فرمایا۔ یہ مقالہ "تدبیر فلاح و نجات و اصلاح" کے عنوان سے حسنی پریس، بریلی (۹ ربیع الاول ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ء) سے شائع ہوا۔ سوالات یہ تھے:-

- (۱) مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
- (۲) ترکوں کی امداد کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟

امام احمد رضا نے ان سوالات کا بڑا مدرسہ جواب عنایت فرمایا جو قابل مطالعہ ہے۔ راقم نے اس مقالے کی اہمیت کے پیش نظر پروفیسر محمد رفع اللہ صدیقی، سابق ناظم تعلیمات حیدر آباد ریجن (سندھ - پاکستان) سے اس مقالے پر کام کرایا۔ موصوف کو نزدیکی نوری، کینڈا سے معاشیات میں ایم۔ ایس۔ سی ہیں اور معاشیات کے ماہر استاد ہیں۔ فاضل موصوف کا مقالہ بعنوان "فاضل بریلوی کے معاشری نکات جدید معاشیات کے آئینے میں" مرکزی مجلس رضا، لاہور نے ۷۷ء میں شائع کیا۔ اس مقالے کی بے حد پذیرائی ہوئی اور بکثرت ایڈیشن شائع ہوئے۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی نے پروفیسر ایم۔ اے قادر (سابق پلٹ پور ننٹ ذگری کالج، سکھر) سے اس مقالے کا انگریزی میں ترجمہ کرایا جو بعنوان

### Economic Guide Lines For Muslims

ادارہ نہ کوئی نہ شائع کیا۔ اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ اسی ادارے نے اس مقالہ پر عربی میں ڈاکٹر محمد جلال الدین نوری (استاد شعبہ معارف اسلامیہ کراچی یونیورسٹی) کا رسالہ "الخطوط الرئیسیة للاقتصاد الاسلامی" علامہ محمد ابراء یوسف خوشنصر صدیقی نے سنی رضوی سوسائٹی انٹر بیجنٹ (جنوبی افریقا) کی طرف سے ایک ایڈیشن شائع کیا۔ انگریز نو مسلم ڈاکٹر محمد ہارون نے امام احمد رضا کے اس مقالے پر انگریزی میں ایک فاضلانہ مقالہ قلم بند کیا جو رضا اکیڈمی، انگلستان نے شائع کیا۔ ڈاکٹر عبدالغیم عزیزی (ڈائریکٹر الرضا اسلامک اکیڈمی، بریلی) نے اس انگریزی مقالے کا اردو میں ترجمہ کیا جو ۱۹۹۶ء میں اکیڈمی کی طرف سے شائع کیا۔ از راہ کرم دو کاپیاں راقم کو بھی ارسال فرمائیں۔ مقالہ کی اہمیت کے پیش نظر ادارہ مسعودیہ، کراچی اس کو شائع کر رہا ہے۔ مولائے کریم فاضل مصنف و مترجم اور ناشرین کو اجر عطا فرمائے۔ آمین!

احقر محمد مسعود احمد  
(کراچی - پاکستان)

۲۳ شعبان المظہم ۱۴۲۷ھ  
۳ جنوری ۱۹۹۷ء

## کچھ مصنف کے بارے میں

زیرِ نظر کتاب کے مصنف عالی جناب ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نسلًا انگریز ہیں۔ انکی ولادت ۱۹۲۷ء میں لیورپول برطانیہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم لیورپول گرامر اسکول میں حاصل کی۔ بعدہ اعلیٰ تعلیم کے لئے کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے جہاں سے انہوں نے ۱۹۴۶ء میں تاریخ میں فرست کلاس آرزرڈ مارکسی حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے ۱۹۵۶ء میں برطانوی قروں و سلطانی کی تاریخ میں پی اپچ، ڈی مکن کیا۔ ان کے بعد سے خود کو مارکسزم، کیوززم اور بین الاقوامی امور کے عینی مطالعہ اور تحقیق و تحقیق کے لئے وقف کر دیا۔

۱۹۶۰ء میں ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اسلام قبول کیا اور رتب سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا۔ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انگریزی میں ایک کتاب "میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟" لکھی ہے جسے رضا آکیڈمی برطانیہ نے شائع کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی تماستہ توجہ اسلامیات، اسلامی تاریخ اور اسلامی سیاست کی طرف مبذول ہو گئی۔

محترم ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اسلامی نظام تعزیر، عید میلاد النبی، اسلام اور عورت، قرآن کریم، سائنس کے حدود، اسلامی سیاست اور دیگر ملی مسائل اور اسلامی موضوعات پر بہت سے زائد کتابیں اور پچاسیوں مقالات و مصایب تصنیف فرمائے ہیں۔ ان کے کچھ تصنیف کے عربی تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی پر بھی کافی کچھ لکھا ہے۔

سنزا ایمان کی بنیاد پر قرآن کریم کا سلیس تر ترجمہ اور بے داع تفسیر کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کی بھالی کے لئے کوشش ہیں۔ ڈاکٹر موصوف رضا آکیڈمی برطانیہ کے ڈائریکٹر اور رضا آکیڈمی کے جنرل "اسلامک ٹائمز" کے سرپرست ہیں۔ ڈاکٹر صاحب امام احمد رضا کے پچھے خقیدت مند ہیں۔

## پچھر اس تصنیف کے بارے میں

### ڈاکٹر محمد ہارون، ڈاکٹر کیمرون رضا اکیڈمی، برطانیہ

حقیقتہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیسویں صدی عیسوی کی اہم ترین شخصیات میں سے تھے۔ آج جبکہ بیسوی صدی ختم ہونے کو ہے، افرادی ہے کہ ان کے نظریات اور کارنامہ تجدید کی روشنی میں عصر حاضر کی آفات سے غسلتے اور سلگتے ہوئے مسائل کو سرد کرنے کی طرف رخ موڑنا پا چاہئے۔

امام احمد رضا کی اہمیت پر کہنے اور لکھنے کے لئے ویسے تو بہت کچھ ہے۔ لیکن فی الحال زیر نظر کتاب کے توسط سے عالم انسانیت کے لئے ان کے نظریات کی حقیقی قدر و قیمت کی ابتدا کی جائزی ہے۔

امام احمد رضا کی شخصیت اس لئے بھی اہم ہے کہ وہ ۱۲۵ اویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے۔ اور انہوں نے خداۓ لمیزیل کے فرمان کے مطابق ان دونوں کو حقیقی مذہب کو زندہ رکھتے ہوئے حقیقی زندگی بسر کرنے میں مدد فرمائی۔ اور آج جبکہ تمام سائنسی منصوبے مصیبت خیز حد تک ناکام ہو چکے ہیں، انسانیت کو ان کے نظریات کی سخت ضرورت ہے۔

کتاب کے باب اول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس سائنس، الحاد، جدید عوامی معاشرے اور یک جماعتی اجتماعیت کے عہد میں روایاتی اسلام کس قدر برمحل اور لازمی ہے۔

باب دوم تا باب آخر اس امر پر بحث کیا گیا ہے کہ امام احمد رضا کا ۱۹۱۲ء کا منصوبہ مسلم کیونٹی کے فروع کے لئے کس قدر برمحل اور کار آمد ہے۔

آج کی جدید سائنسی محدثانہ ایک جماعتی اجتماعیت کی تحریک یہ عقیدہ پیش کرتی ہے کہ انسانی زندگی کا مرکز جدید طرز حکومت ہے۔ آج انسان صرف حکومت کے لئے زندگی لیبر

کرتے ہوئے دیکھئے جا رہے ہیں۔ لیکن امام احمد رضا کا عقیدہ یہ تھا کہ انسانیت کو حکومت کے لئے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے لئے جینا چاہئے۔ اولیٰت حکومت کو نہیں بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قوم یعنی امت مسلمہ کو ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے بھی ایک قوم ہے۔

اسی امر کے لئے امام احمد رضا نے ۱۹۰۴ء کا منصوبہ پیش فرمایا کہ مسلمان اسٹریٹ سے احتراز کرتے ہوئے آزادانہ طور پر اپنی اُس خوش حال کیونٹی کی تشکیل کر دیں اور اسے فروع بخشیں جہاں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھن کی طرح علماء و صلحاء کی رہنمائی میں فرمان الہی کے مطابق اسلامی تہذیب کو زندہ رکھتے ہوئے غلبہ اسلام کے لئے زندگی پس کر کریں۔

یہ منصوبہ مثلاً اور اسلام کے عوامی معاشرہ سے کیسے جدا گا انہیں ایک علیحدہ دنیا کی تعمیر کا منصوبہ ہے جو مسلمانوں کو حکومت پر منحصر اور مرکز سوسائٹی سے بچاتا ہے جو آج مغرب میں موجود ہے اور جس سے دنیا کی اکثریت متاثر ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ منصوبہ اس قدر انوکھا اور اہم ہے۔ امام احمد رضا کا یہ منصوبہ جدید حکومت اور جدید انسانیت کی پیدا کردہ نسلیت پرستی، فرقہ وارانہ تعصب اور اذیت رسائل جیسی جیسا ریوں سے مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ اور اسی سبب سے یہ مسلمانوں اور انسانیت کو ایک نئی شروعات تہذیب اور سیاست، معاشیات، سماج اور مذہب میں ایک ترقی پذیر راستہ پیش کرتا ہے۔ اس کتاب کے ابواب خود بولتے ہوئے ہیں اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں!

فارمین کو اس کتاب میں پیش کردہ نظریات کی گہری اہمیت پر غور کرنا چاہئے۔

امام احمد رضا غیر معمولی ذہین انسان اور اسلام کے مجدد تھے۔ رضا اکیڈمی نے ان کے رسائل اور ان پر لکھی گئی کتابوں کی اشاعت کی ہے۔ بطور ضمیرہ یہ رسالہ حاضر خدمت ہے۔

اس رسالہ کی تیاری میں حصہ لینے والے احباب بالخصوص ایم آفی کشمیری، افضل جبیب، محمد طاہر خاں اور عمریہ رضا جہان شکرے کے ستحقی ہیں۔

## مقدمہ

### ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی

۱۳۰۴ء میں صدی ہجری کے مجدد اسلام امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ الغزیز (ولادت: ۶۱۸۵ھ - وصال: ۶۱۹۲ھ) نے جو کچھ کہا، لکھا اور کیا صرف غلبہ اسلام اور فلاح ملت کی خاطر ہی کہا، لکھا اور کیا۔ غلبہ اسلام اور تجدید دین ملت ہی کے حوالے سے انہوں نے ستر کے قریب نقلی اور عقلی علوم و فنون پر ایک ہزار سے زائد کتب درسائل تصنیف فرمائے اور ہر علم و فن کو تحقیق کیئی جہتوں سے آشنا کیا۔ ان کی ہر تصنیف کا لفظ لفظ سچائی کا آئینہ اور حرف حرف معتبر ہے۔ اور ان کی ہر تصنیف سے ان کے سماں نامہ تجدید کے خورشید کی شعاعیں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔

۱۹۱۲ء میں اس بڑی برقتوں والی ذات امام احمد رضا نے ایک رسالہ بنام "تدبیر فلاح و بنیات و اصلاح" تصنیف فرمایا تھا جو بشكل تمام آٹھ موس صفحات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے کیف کا عجیب عالم ہے۔ یہ رسالہ ملت اسلامیہ کے وقار و کامرانی اور فلاح و بنیات کا ایک سدا بہار رضا بطلہ، ایک سیدھا پچار اسٹن بلکہ یوں کہے کہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔

- ۱۔ انہوں نے زیر نظر رسالہ میں جو چار نکات تجویز فرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-  
بائستمنا و ان معدود بالتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہوا پہنچنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے۔ اپنے سب مقدرات اپنے آپ فیصل کرتے۔
- ۲۔ اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ دن خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا۔ اپنی حرف و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔
- ۳۔ بمبی، کلکتہ، رنگون، امدادیس، جیدر آباد وغیرہ کے تو انگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لئے بنیک کھولتے۔

م۔ دین کی رستی کو مضبوطی سے تھا میں رہ کر علم دین کی ترویج و اشاعت اور اس پر عمل۔

امام احمد رضا کے اس رسالہ پر جو پہلا باقاعدہ تحقیقی جائزہ سامنے آیا تھا وہ تھا جناب پروفیسر فیض اللہ صدیقی کا مقارہ ہے ”فاضل بریلوی کے معاشی نکات جدید معاشیات کے آئینے میں“

(مطبوعہ: مرکزی مجلس رضا، لاہور شمارہ ۱۹۶۸ء)

پروفیسر فیض اللہ صدیقی رقم طاز ہیں :-

”جدید اقتصادی نظریات کی ابتداء شمارہ ۱۹۳۴ء کے بعد سے ہی ہوئی اور

یہ بات کس قدر حرمت انگریز ہے کہ نگاہِ مردموسن نے ان جدید اقتصادی تقاضوں کی جملک شمارہ ۱۹۱۲ء میں ہی دکھادی تھی“

(فاضل بریلوی جدید معاشیات کے آئینے میں، ص ۱۰، ۱۱)

پروفیسر موصوف مزید تحریر فرماتے ہیں :-

امام احمد رضا کا علم، علم لائی تھا اور وہ ہر شے کو مومنا نہ فراست اور نگاہِ ولایت سے دیکھتے تھے۔ کاشش امام احمد رضا عہد کے مسلمانوں نے ان کے نظریات پر عمل کیا ہوتا! لیکن امام احمد رضا کا نظریہ اس عہد سے لیکر آج تک کے اور آئندہ ادوار کے تمام مسلمانانِ عالم کے لئے ایک لائج عمل ہے جس پر کسی وقت بھی عمل کر کے مسلمان ایسا کھو یا ہو امقام اور وقار حاصل کر سکتے ہیں۔

پروفیسر فیض اللہ صدیقی کے بھروسہ پر مگر ایک زاویائی جائزے کے بعد دوسرا بھروسہ اور وسیع، واسنورانہ اور محققانہ جائزہ جو نظر آیا ہے وہ ہے جناب ڈاکٹر محمد ہارون صاحب ڈاکٹر رضا اکیڈمی اسٹاک پورٹ انگلینڈ کا انگریزی زبان میں ہ مقالات پر مشتمل جائزہ۔ یہ مقالات رضا اکیڈمی کے ترجمان ماہنامہ اسلامک نائٹر اسٹاک پورٹ انگلینڈ کے شماروں نومبر ۱۹۹۵ء، جنوری، مارچ، اپریل، مئی ۱۹۹۶ء میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن کی اہمیت کے پیش نظر مختلف رسائل و جرائد نے انھیں

مسئلہ ارشاد کیا ہے اور اب کتابی شکل میں پیش خدمت ہے۔ راقم السطور عزیزی نے ان مقالات کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ پانچوں مقالات یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کئے جا رہے ہیں۔

جناب ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اپنے خیالات کے توسیع سے امام احمد رضا کے معاشری، سیاسی، سماجی اور تہذیبی نظریات اجاگر کئے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ رضا کو ہر عہد اور ہر ملک کے مسلمانوں یہاں تک کہ عالم انسانیت کے لئے ایک کلید اور فلاح و نجات کا واحد راستہ بتایا ہے اور اسی سے امام احمد رضا کی شان بتجددید کو واضح کر دیا ہے۔

اس جائزے میں ڈاکٹر موصوف نے دکھایا ہے کہ:

۱۔ چونکہ ہندوستان اور برطانیہ میں یہاں اسیکو اسٹیٹ قائم ہے۔ لہذا وہاں منصوبہ رضا پر با آسانی عمل کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ مسلم ممالک میں اس پر عمل بہت آسان ہے اور مسلمان اس پر عمل کر کے مشترکہ مسلم منڈی اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور معاشی طور پر منبڑا ہو کر مغربی طاقتوں کو اسلامی حکومتوں میں دخل اندازی سے روک سکتے ہیں۔ اور انھیں جھکا سکتے ہیں۔

۳۔ الجزائر میں یہ منصوبہ ناکام اسٹیٹ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔

۴۔ مسلمان کسی سیاسی تحریک اور غیر مسلم ممالک میں سیاسی دخل اندازی اور اپنی سیاسی پارٹی کے قیام کے بغیر بہت تھوڑی سیاسی سرگرمی سے اپنا دقار و دبارہ بحال کر سکتے ہیں۔

۵۔ مسلمانوں کو گورنمنٹ سروس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے حرقت و تجارت پر بھر اور توجہ دینی چاہئے اور برداشت و حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خود کو مستحکم کرنا چاہئے۔ مدرسہ، مسجد اور خالفاء کے ذریعہ تبلیغی مشن، علم دین اور طریقیت کو فروغ دینا چاہئے۔ اور رفاهی، فلاحی و خیراتی اداروں کو

پروان چڑھانا چاہئے۔

- ۶۔ مسلمانوں کو مسلم اور غیر مسلم آفی لینڈ کو پروان چڑھانا چاہئے۔ جہاں دین اور علماء و صلحاء کی حکمرانی اور قیادت ہو۔
- ۷۔ امام احمد رضا کا ہر نکتہ مذہب سے ہی ہم آہنگ ہے اور مذہب ہی سے مرتبکرنا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اس منصوبہ پر کوئی بھی مسلمان آج سے یا ابھی سے یا جس وقت سے چاہے عمل کر سکتا ہے۔ عمل کرنے پر کامیابی ضرور ملے گی۔ انہوں نے مثالوں کے ذریعہ بھی اس پروگرام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے جیسے "کوئی مسلم خاتون یہ طے کر کے کروہ آج سے مسلم دوکاندار سے سودا خریدے گی اس پروگرام پر عمل کر سکتی ہے یا کوئی مسلم خاندان یہ سوچ کر مسلم محدث میں گھر بناتا ہے کہ اس طرح اس کا تعلق مسجد مدرسہ اور اپنی قوم سے رہے گا، بھی اس منصوبہ پر عمل کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ"۔

ڈاکٹر موصوف نے یہ کہ کہر : "آزاد اور خود مختار سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی شعبہ ہائے زندگی کے ذریعہ قوم کی تشكیل کر کے جو عالمگیر سطح پر عملی کارروائی کے لئے مشکلم ہو سکے، ہی کا نام تجدید اسلام ہے" ثابت کر دیا ہے کہ امام احمد رضا نے ہر اعتبار سے دین و ملت کی تجدید کا کارنامہ انجام دیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلم قویت کی تشكیل بر شعبہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط اور مخلصانہ و فاداری سے ہی ہو سکتی ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ زیر نظر سارہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

## ۱۹۱۲ء میں پیش کردہ امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کی اہمیت

امام احمد رضا نے ۱۹۱۲ء میں مسلمانوں کی بحالی کے لئے جو چار نکاتی پروگرام پیش فرمایا تھا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور نہایت ہی جامع اور مؤثر منصوبہ ہے جس سے مسلمانوں کو عمل کرنے بغیر کوئی چارہ کا رہنا نہیں!

۱۹۱۲ء میں مسلمانوں کی ہولناک حالت کے بارے میں امام احمد رضا سے سوال کی گیا تھا مغرب "سلطنت عثمانیہ" کو بری طرح مغلوب کر رہا تھا۔ بہت سے مسلمان سلطنت عثمانیہ کی امداد کے سلسلے میں اسے مالی اعانت بھیم پہنچانے اور مغرب (برطانوی حکومت) سے مقاٹعہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔

امام احمد رضا نے کئے گئے اس سوال کے جواب میں مسلمانوں کے فلاح و نجات اور اصلاح کے لئے ایک منصوبہ بھی پیش فرمایا اور یہ صراحت بھی کر دی کہ ان کی موجودہ کوششیں سودمند نہیں۔ مقاٹعہ کا رامد نہیں ہو گا۔ اس وقت تو امام احمد رضا کی باتوں پر لوگوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کی۔ ترکوں کی امداد کے لئے جمع کردہ رقم ناکافی تھی اور اس کا بیشتر حصہ مسلم سیاست داں اپنے کیرری پر صرف کر رہے تھے اور حقیقتاً غیر ملکی مسلمانوں کے واسطے کچھ نہیں کر رہے تھے۔

امام احمد رضا نے مزید فرمایا کہ سلطنت عثمانیہ کو زیادہ سے زیادہ رقم اور مدد یعنی چاہیئے۔ لیکن امت مسلمہ کی بحالی اور فلاح و نجات کی یہ اصل کلید نہیں تھی بلکہ وہ اس سے مختلف ہے۔

امت مسلمہ کی فلاح و نجات اور اصلاح کا اصل راستہ تھا۔ قد و قامت اخود مختاری اور اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کی تنظیم و تعمیر اور وہ تھا امام احمد رضا کا

چار نکاتی پروگرام! علاوہ اس کے کسی اور کام کی سعی لا حاصل تھی۔ اس لئے کہ قوم کمزور تھی، غلام تھی مقاطعہ یا مشترکہ ذمے داری کے ہم یا مالی عطیات کا رامد نہیں تھے جب کہ قومی تنظیم ہی نہ ہو۔ ایک منظم اور طاقتور قوم ہی کے ساتھ یہ تمام کوششیں موثر تر ثابت ہو سکتی ہیں اور بلاشبہ اسلامی تہذیب میں ڈھال کر ایک طاقت ور اور خود محترم قوم کی تعمیر و تنظیم ہی جدید اسلام ہے۔ حقیقی مسلم قوم کے سوا اور اسلام کیا ہے؟ اگر امت مسلمہ مضبوط اور طاقت ور ہے، اسلام مضبوط اور طاقت ور ہے۔

امام احمد رضا کا چار نکاتی پروگرام سادہ اور آسان تھا۔ اول یہ کہ مسلمانوں کو حکومتی امور عدالت سے قطع نظر کر کے (احتراز کرتے ہوئے) اپنے معاملات شریعت کی روشنی میں باہم فیصل کرنا چاہئے جس کا نتیجہ ہو گا سیاسی خود مختاری اور اسلامی سیاسی قیادت کا ارتقاء۔

انگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے قبل مسلمانوں کی قیادت کی باغ ڈور علماء کے ہاتھوں میں تھی اور وہ شریعت پر عمل پیرا تھے لیکن استعماری حکومت نے علماء کی اس قیادت کو ختم کر دیا۔ برطانوی ہندوستان میں علماء کے جاری کردہ شرعی نظام کی جگہ اینگلکو محمدن قانون اور خالص سیکولر آئین و الی برطانوی کچھروں نے لے لی۔ اگر مسلمان برطانوی نظام سے احتراز کرتے تو علماء اور شریعت کی پشت پناہی میں رہتے۔ مسلمانوں کے اصل قائد تو علماء اور مشائخ ہیں۔ امام احمد رضا کی تجویز کردہ خود مختاری و آزادی انھیں حکم شریعت کی پشت پناہی میں رکھتی۔ امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کا دوسرا حصہ تھا مسلمانوں کا غیر مسلم معاشیات سے احتراز اور اپنی آزادانہ معاشیات کی تغیری اور بحالی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کو اپس ہی میں خرید و فروخت اور لین دین کرنی چاہئے۔

ہندوستان میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت مسلمانوں کا غیر ارزہ بکھیرا جا رہا تھا۔ وہ ایک قوم ہونے کے باوجود معاشرہ میں منتشر کئے جا رہے تھے اور تجارتی امور میں غیر مسلمانوں سے خلط ملط ہو رہے تھے۔ اس طرح امت مسلمہ بتدریج زوال پذیر

ہو رہی تھی۔

اگر مسلمان مسلمانوں سے ہی خرید و فروخت کرتے تو قوم کو بحالی حاصل ہوتی اور وہ مضبوطی کے ساتھ اتحاد میں بندھے رہتے۔ امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کا تیرا جزو تھا "اپنے آزاد از بینکاری نظام کا قیام!" سرمایہ دارانہ نظام کے تحت مسلمان ذاتی اور تجارتی عرض کے لئے سرمایہ داروں اور بینکوں سے قرض لیتے تھے۔ نتیجتہ تجارت پیشہ طبقہ انتشار میں مبتلا تھا۔ مسلمانوں کے لئے اپنے کسی معاشی نظام کا وجود نہیں تھا۔

امام احمد رضا نے یہ تجویز بھی پیش فرمائی تھی کہ اسلام میں قانون کی رو سے غیر سودی اسلامی بینک کا قیام ممکن تھا اور اس کو ضروری سمجھ کر پروان چڑھانے (ترقی و نیجی) کی سفارش بھی کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے اور حقیقی خود مختاری اور معاشی طاقت حاصل کرتے۔

امام احمد رضا کے پروگرام کے دوسرے اور تیسرا نکات پر عمل پیراؤنے سے مسلمان باہم کام کرتے ہوئے ترقی پذیر ہوتے اور بیجیت قوم حقیقی زندگی بسکر کرتے۔ اس طرح یہ علماء اور مشائخ کی قیادت فرمائی کی ایک سچی قوم ہوتی۔

اس طرح امام احمد رضا کے منصوبے کا چوتھا جزو بھی سادہ تھا۔ "مسلمانوں کو علیم دین اور اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانا چاہئے تھا" تاکہ قوم سیاسی اور معاشی معاملات میں خود مختار ہوتی۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اسلامی ہوتی۔

علماء کو بہر قیمت ہر چیز پر فوقیت دیتے ہوتے اسلامی تہذیب کی نشوونما اور سرتاسر پر مبنی اسلامی زندگی کی تشكیل کی رہبری کرنی چاہئے۔ برطانوی ہندوستان میں مسلمان بآسانی اسلامی تعلیم سے دست بردار ہو رہے تھے۔ تعلیم یافتہ سیکور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ علماء ہی دینی تعلیم حاصل کرنا بھی نہیں چاہئے تھے۔ یہ بات قوم کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی تھی۔

امام احمد رضا نے اس کا جواب علم دین کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تہذیب کی نشوونما میں دیکھا۔ اس طرح امام احمد رضا کا منصوبہ تھا۔ قوم کی خود مختارانہ سیاسی، معاشی اور تہذیبی تکمیل، و تنظیم اور بھی تھی اسلام کی تجدید اور اس طرح قوم میں الاقوامی

سطح پر عملی کارروائی کے لئے طاقت ورben جاتی۔

اب امام احمد رضا حقیقتاً یہ تجویز فرمائے تھے کہ اسلامی معاشرہ ایک جزیرہ کی جیشیت سے پروان چڑھے اور اس جزیرہ میں (اس علیحدہ اسلامی دنیا میں) قوم پروان چڑھے مسلمان ایک دوسرے سے مل کر کام کریں۔ اسلام کو ترقی دیں، بحیثیت پرو اسلام ترقی کریں اور خود اپنے قائد پیدا کریں۔

امام احمد رضا کا یہ منصوبہ کئی وجہ سے اہم ہے۔

اول یہ کہ مسلمانوں کے لئے یہی واحد منصوبہ تھا جو موثر اور کار آمد تھا۔

امام احمد رضانے یہ منصوبہ اس لئے تجویز فرمایا کیونکہ دوسرے منصوبے مصیبت خیز حد تک ناکام ہو رہے تھے۔ جب برطانوی ہندوستان اُکریمیاں کے حکمران بن ٹھیے تو بہت سے مسلمانوں نے سوچا کہ قوم سے علیحدہ ہو کر کفری ملت میں شمولیت اختیار کر لینا درست منصوبہ تھا۔ انھیں امید تھی کہ اس طرح وہ بہتر حالت میں رہیں گے۔ اچھی ملازمتیں حاصل کر لیں گے۔ کافر معاشرہ میں اوپنچا مقام پا کر برطانوی حصہ دار کی جیشیت سے سماج کے بیڈر بن جائیں گے۔ بعد میں آزاد ہندوستان میں ایسے ہی لوگوں نے سوچا کہ وہ ہندوؤں کے برادر حقوق حاصل کر لیں گے۔ آج برطانیہ میں ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ برطانوی حکمران طبقے کے رکن بن جائیں گے۔ معاشرہ میں بلند مقام کے حصول کی خاطر یوگ انگریزی تعلیم کے لئے سوداً ہو رہے تھے۔ ان کی نظر میں ان کی اولاد کا گز بجوسٹ ہو جانا اشد ضروری تھا تاکہ وہ اچھے عہدے کے ساتھ سماج میں اوپنچے اٹھ سکیں۔ سر سید احمد خان کے صاحزادے بھی حصول تعلیم کے لئے کیمbridج گئے۔ لیکن مسترد کردئے گئے۔ اور شکست دل ہو کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ آج ہندوستان میں اس طرح کے خیال سے اگر کوئی مسلمان معاشرہ میں بلند منصب حاصل کرے تو بھارتیہ جنت پاری غلبناک خفگی کا اخبار کرتی ہے۔ آج اس طرح برطانیہ میں برطانوی بھی کسی مسلمان کو بلند عہدہ دینا گوارہ نہیں کرتے سلمانوں کو ملازمت سے دور رکھا جاتا ہے، انھیں ترقی سے روکا جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ ملازمت پاتے ہی نہیں۔ میں اس طرح کے بہت سے سلم نوجوانوں سے واقف ہوں، جن

کے پاس اچھی ڈگریاں موجود ہیں۔ وہ برطانیہ میں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مگر بے روزگار ہیں۔

۱۹۱۲ء میں امام احمد رضا نے غور کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ دانستہ تفرقی (تعصب) برنا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا کا منصوبہ اس مسئلہ کا حل ہے۔ اگر مسلمان اپنی قوم کی تشکیل و تنظیم کریں، اپنوں ہی میں خرید فروخت کا کاروبار کریں۔ اپنوں ہی کے بہبود اور روزگار کے لئے عمل کریں تو تمام مسلمانوں کی ملازمت اور کیریکے لئے موقع فراہم ہو جائیں گے اگر ”مسلم بنیک“ مسلمانوں کو سرمایہ فراہم کریں گے تو باصلاحیت افراد اپنی بخارت و پیشہ کو تشکیل دے کر ترقی کر سکتے ہیں۔

## امام احمد رضا کا منصوبہ امتیازی سلوک کو ناممکن بنانا ہے

برطانیہ میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کی مجموعی امنی بہت سے مسلم ممالک سے زیادہ ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں تو ہر مسلمان ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے بیرونی اصل خطرہ نہیں ہے بلکہ اصل خطرہ ہے بھک سے اڑ جانے والی تشدد خیز نسلی امتیاز اور فرقہ واریت۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اس خیال پر غضیناں ہوتے ہیں کہ وہ بی۔ اسے کر کے اگر بجوٹ ہو کر (لازمت کے لئے ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کریں۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی بی۔ این پی اور شیل فرنٹ (قومی مورچہ) کا یہی خفیہ منصوبہ ہے۔

امام احمد رضا کا منصوبہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے مقابلہ آرائی سے باز رکھتا ہے لیکن انھیں ان کی قوم اور سماج میں ایک جزیرہ (علیحدہ اسلامی معاشرہ) عطا کرتا ہے جس میں وہ باوقار زندگی گزار سکیں۔

آج بوسینیا میں مسلمان اس لئے قتل کئے جا رہے ہیں کیونکہ سب اس بات کو نظر نہیں کر سکتے کہ مسلمان ان سے منصب اور عہدہ میں مقابلہ آرائی کریں۔ امام احمد رضا کا منصوبہ نسلی امتیاز کے لئے تربیت ہے۔ کس قدر اہم یہ منصوبہ ہے؟

امام احمد رضا کا منصوبہ اس لئے بھی اہم ہے کہ حکومتی نظام قانون سے احتراز کا درس دیتا ہے۔ امام احمد رضا کے منصوبے کے مطابق مسلمانوں کو حکومتی نظام قانون سے احتراز کرتے ہوئے خود اپنی قیادت کی نسخوناکی چاہئے اور سماج میں تشكیل کر دہ اپنے جزیرہ (اسلامی سماج) میں اپنے شرعی نظام کو راست کرنا چاہئے اور اسے ترقی دینی چاہئے۔

ان مسلمانوں میں بہت سے لوگ جو کفری سماج میں اوپنے اٹھنا چاہتے ہیں۔ انھیں حکومتی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ حکومتی نظام پر چلنے پر مجبور ہوتے ہیں اور مساوی حقوق کے لئے آئین کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی مدد کی خاطر حکومتی دفل اندازی اور حکومتی سہارا پانے کے لئے قومی ہم آہنگی اور قومی یک جہتی کی ضرورت پڑتی ہے جسے وہ فروع دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ سب نہایت ہی غلط ناک ایک اُتش گیر مادہ روڈ اسٹریٹ ہے۔

ہندوستان میں بھارتیہ جنتی پارٹی کی ہی شدید نفرت یا تعصب دراصل مسلمانوں کو حکومتی مدد کے خلاف زبردست احتجاج کا اظہار ہے۔ پلی۔ این اپنی اور عام انگریز کی شدید نفرت یا تعصب اس خوف سے اور بھی بر انگلیختہ ہوتی ہے کہ حکومت مسلمانوں کو عہدے و مناصب اور قول صارکونسل) میں برابر کے درجے فراہم کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ برطانیہ میں مسلمان نسلی امتیاز و فرقہ واریت اور تعصب سے گھرے ہوئے ہیں۔ بارٹے میں پڑتے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی بارٹہ (کھٹی ہوئی دنیا) حکومت کی مدد سے کافر سماج میں مساوی حقوق دیگر کے حصول کی کوششوں کی وجہ سے وجود پذیر ہوا ہے۔

اگر مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کا رویہ اختیار کیا ہوتا اور وہ اپنے ہی اسلامی معاشرہ میں رہتے تو ان کے اور دوسروں کے جو دو سیع سماج میں رہتے ہیں، کے خلاف غیر مسلموں کے تعصب کے جوش و غضب کا یہ عالم نہ ہوتا۔ کچھ لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ برطانیہ میں مسلمان ایک ایسی مضبوط جماعت کی تشكیل کر دیں جو زور دباو ڈال کر کافر سماج میں ان کے لئے اوپنچا مقام حاصل کرنے

کار اسستہ ہمار کر سکے۔ وہ یہودیوں کی نقل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس امر کو فرماؤش کر دیتے ہیں کہ اسی سبب سے ہتلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔

آج یہودی وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے ان کی قوم معاشرے کے جزیرہ میں ترقی پذیر ہو اور نفرت و تعصب کم سے کم ہوتا چلا جائے۔ ہتلر نے یہودیوں کا اسی وجہ سے قتل عام کیا تھا کہ وہ عیسائی معاشرہ میں اپنے اٹھنے کی کوشش میں یونیورسٹیوں میں جا رہے تھے اور ملازمتوں اور پیشوں میں داخل ہو رہے تھے۔

امام احمد رضا کا منصوبہ کس قدر تدبیر اور ذہانت سے پڑ رہے۔ مسلمان حکومتی نظام قانون سے احتراز کرتے ہوئے بغیر کسی نفرت و تعصب اور فرقہ واریت کے خوف و خطر سے لپنے تشكیل کر دہ اسلامی سماج میں خوشحال اور پر امن زندگی گزارنے کے لئے آزاد ہوں گے۔

ان دونوں بہت سے مسلمان سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر اسستہ ہے اسلامی اسٹیٹ کا نشوونا یعنی مسلمان ایک سیاسی پارٹی کی تنظیم کر کے حکومتی طاقت حاصل کر لیں اور بھر اس اسٹیٹ کے کنڑوں کے ذریعہ خود کو دولت اور طاقت میں اپنے اٹھالیں۔

لیکن بد قسمتی سے یہ منصوبہ اس قدر خطناک اور بھک سے اڑ جانے والا ہے کہ بغیر وسائل کے اسے سر کرنا سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور غارت گری ہے۔ سبب آسان ہے۔ غیر مسلم حکومتی طاقت سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی خاطر لڑنے کے لئے تیار ہیں۔ دراصل جو مسلمان اس اسلامی اسٹیٹ کی تشكیل کے خواہاں ہیں وہ اپنے سواد و سرے مسلمانوں کو دولت و طاقت نہیں دینا چاہتے اور وہ لوگ دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لئے کہ ہم مسلک و ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی اکثریت اس وجہ سے بھی اس طرح کی اسلامی تحریکوں کی تشكیل کی مخالفت کرتی ہے۔

اسلامی اسٹیٹ کے قیام کا، امام احمد رضا کا منصوبہ اس سے کیسے مختلف ہے۔ اسلامی معاشرہ یا مسلم جزیرہ کی پالیسی کی حمایت صرف سنی مسلمان اس وقت سے کر رہے تھے جب سے خلافت کا خاتمہ ہوا تھا اور وجہ یہ تھی کہ حکومت اور معاشرہ دونوں اسلامی نہیں تھے۔ اگر سماج

میں مسلم آئی لینڈ (علیحدہ اسلامی سماج) پنپ جاتا تو دھیرے دھیرے بغیر کسی طاقت کے نیسلم  
معاشرہ پھیل بڑھ کر پورے معاشرہ پر چھا جاتا نتیجتاً حکومت اس سے متاثر ہوتی۔ تب  
اسے علماء و مشائخ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے شرعی اصول پر عمل پیرا ہونا پڑتا۔  
لیکن یہ اسلامی اسٹیٹ مسلمانوں کے لئے غلبہ و حکومت کا وسیلہ نہیں ہو گا بلکہ وہ  
اسلامی جزیرے میں نشوونما سے تغلب کے لئے آئیں گے اور گورنمنٹ کو متاثر کریں گے۔  
جب انہوں نے معاشرہ میں طاقت کو کچل دینے کا نسخہ تیار کیا تھا۔ امام احمد رضا کا یہ  
اصول واحد نسخہ تھا جسے تمام عالم اسلام میں منگلوں کے چلے کے سبب خلافت کے خاتمہ  
کے بعد ازما یا جاتا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اور دوسری مسلم حکومتوں کا ظہور ہوا۔  
امام احمد رضانے باکل فطری طور پر اس منصوبے کا رخ تبدیل کر دیا جب کہ دنیا  
میں اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ ترکیب پہلے بھی کارگر ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوبارہ  
یہ کارگر نہیں ہو گی اور کیا سبب ہے کہ یہ ترکیب بر طایہ میں کارگر نہ ہو؟ یہ سلم جنریہ کوئی  
یہودی بارہ نہیں۔ یہودی بارہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ دوسروں سے علیحدہ ہو کر اور  
ٹوٹ کر رہتے ہیں۔ اگر اصلیت میں سماج میں مسلم جزیرہ قائم ہوتا تو کوئی بھی اس میں آکر رہ  
سکتا تھا۔ مسلمان جو طبقہ یا قوم سے کٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے تھے۔  
غیر مسلم بھی مسلمان ہو کر اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔  
عالم اسلام کے مسلمانوں کو اکثریت میں ہونے کے لئے صدیاں درکار ہیں۔ بر طایہ  
میں مسلمان ایک صدی میں اکثریت میں اسکتے ہیں اور فسطیلت و نسلی تعصب ان سب  
کو روک لے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے امام احمد رضا کا منصوبہ اسے زیر کرنے  
کا بہترین نسخہ ہے۔

### امام احمد رضا کا منصوبہ کیسا عجیب و غریب ہے؟

حقیقتاً امام احمد رضا کے منصوبے کو بہت ہی معمولی سیاسی سرگرمی کی ضرورت  
ہے۔ اس کا مقصد ہے حکومت سے ہٹ کر اپنے اسلامی معاشرہ میں اسلامی زندگی کو پروان

چڑھانا، سیاسی اور سماجی زندگی کی آزادی و خود منتاری کے لئے اور مسلمانوں کے لئے مذہبی رواداری کے حصول کے لئے صرف یہی واحد راستہ ہے۔

اسٹائل کے رووس جیسے مقام پر امام احمد رضا کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا جہاں ذرا بھی آزادی نہیں حاصل تھی اور بلاشبہ یہ منصوبہ سربیا جیسے مقام پر بھی کامیاب نہیں ہو گا، جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ہر جگہ دنیا کے ہر ملک میں یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اج ہم زیادہ سے زیادہ مذہبی رواداری اور سیاسی آزادی والی ترقی پذیر دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کی بیماری کا سبب ہے کہنہ پروری، نسلی و علاقائی تعصب اور فرقہ داریت وغیرہ اور اس لئے اس وقت امام احمد رضا کا منصوبہ خاص طور سے بر محل اور اہم ہے اور بلاشبہ اس منصوبہ کو برطانیہ جیسے بے تعصب اور جمہوری روایات والے آزاد پسند مملکت میں بروئے کار لانا بہت زیادہ آسان ہے۔ یہاں یہ ہمارے لئے بھی زیادہ آسان ہے اور عالم اسلام میں ان مسلمانوں کے لئے اسے بروئے کار لانا بہت آسان ہے جو جابر از ملکت میں رہ رہے ہیں۔

دوم یہ کہ امام احمد رضا کا منصوبہ مسلمانوں کے لئے اس لئے بھی اہم ہے کہ یہی واحد منصوبہ ہے جس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ دوسرا کوئی منصوبہ مسلمانوں کے لئے کارگر نہیں ہے؛ مسلمان کا اپنی قوم کو چھوڑنے کا نتیجہ سماج میں تلمیحہ کی حیثیت سے رہنا ہوتا ہے تعصب اس قدر زیادہ ہے اور بے روزگاری اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اعلیٰ قابلیت سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں! وہ مسلمان جو اسلام سے کٹ جاتے ہیں، ان کے لئے اپنوں میں خوش آمدید کی کوئی توقع نہیں، اور وہ عام طور سے غیر مسلموں سے صرف نفرت اور انتیازی سلوک کے سوا کچھ اور نہیں حاصل کر سکتے اور سوم یہ کہ امام احمد رضا کا منصوبہ اس لئے بھی اہم ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمان حقیقتاً کیا کر رہے ہیں۔

برطانیہ میں مسلمان صرف اپنے مسلمانوں میں ہی وہ جگہ پاتے ہیں، جہاں وہ کام یا ملازمت اور مدد و حاصل کر سکتے ہیں۔ ۔۔۔ واحد مقام، جہاں وہ خوش آمدید کہے جا سکتے ہیں وہ اپنا مسلم طبقہ ہی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد تہذیب ہے، جو انھیں

برا بڑی کا درجہ دیتا ہے اور خوش آمدید کہتا ہے.... وہ قائد جو مسلمانوں کی مدد کریں گے، صرف علماء اور شائخ ہیں۔

آج بوسنیا کی مسلمان ریپیو جی بنادئے گئے ہیں۔ ہر جگہ جو طبقہ انھیں خوش آمدید کرتا ہے، وہ صرف طبقہ مسلم ہی ہے۔ بوسنیا کی مسلمان برطانیہ میں مسلمانوں کے درمیان پورے طور سے خوش آمدید کہتے جاتے ہیں۔

ایک مسلمان .... مسلم دکانوں کیفی، مسجدوں اور خانقاہوں سے بھرے ہوئے علاقہ یا ضلع میں بخوبی خوش آمدید کہتا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرح محسوس کرتا ہے۔

ایک شخص بی اے پاس ہے لیکن اسے کوئی نہیں جانتا پہچانتا۔ لیکن ایک شخص اگر نعمت خواہ ہے، مسلمان اس سے محبت کریں گے۔

باقی اساتین ہے۔ ہم سب فطری طور پر امام احمد رضا کے منصوبے پر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں عمدًا اور جان بوججو کر اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ مسلمانوں کو مسلم جزیرہ (اسلامی سماج) کی تشكیل پر غور کرنا چاہئے۔ انھیں مسلمانوں ہی کے درمیان رہنا اور کام کرنا ہے۔ انھیں مسلم پیروں اور عالموں کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہوئے ان کی پیروی کرنی چاہئے اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا چاہئے۔ انھیں اسلام اور اسلامی تہذیب کے مطالعہ اور اس میں رچ بس جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

جدید معاشرے کے تمام مشکلات مسلم جزیرہ (مسلم سماج، اسلامی دنیا) حل کر سکت ہے، جیسا کہ تعصب اور اسلی احتیاز کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یاد رکھئے کہ مسلم قوم یا امت مسلمہ بذات خود ایک بین الاقوامی اور مختلف پرادریوں پر مشتمل کہ قوم ہے۔ جس کا انحصار رنگ و نسل پر نہیں ہے بلکہ بیجیت مجموعی ایک قوم ہے۔

”مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا“

گھر یلو حادثے اور عام بے روزگاری کے سبب علیحدگی بھی ایک سملہ ہے اور ایسے خاندان کے لئے مسلم جزیرہ (مسلم معاشرہ) ایک پناہ گاہ ہو گا۔ شراب اور منشیات کا

دُور دورہ ہے۔ اسلام ان سب کو شکست دے سکتا ہے۔ روایاتی تہذیب کے زوال کے سبب (اسلامی تہذیب سنت کے قریب قریب خاتمہ کے سبب) آج کی تہذیب بہت ہی مہیب ہو گئی ہے۔ امام احمد رضا کے مسلم جزیرے (اسلامی معاشرہ) کے قیام کا نکتہ اسلامی روایاتی تہذیب کو زندہ رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ آج اسلام کی موت ہے، دین مسلم ہی میں چمکتا ہے۔

پورے سماج میں خالص اسلامی معاشرہ میں ایک خود مختار معاشرہ ہو گا۔ یہ حکومت اور حکومتی کنسٹروں سے احتراز کرے گا۔ یہ اپنے اصول، فضائل کو جاری کرنے والی سوسائٹی ہو گی۔ اس کے قائد خود عوام کے تسلیم شدہ ہوں گے اور یہ سخت گیرانہ و راشہ، یا خاندانی حکومت و قیادت سے پاک سوسائٹی ہو گی۔

اسلامی جزیرہ کا حاکم اعلیٰ صرف اللہ وحدہ لا شرک ہو گا۔  
یہ مسلم آئی لینڈ، ایک عالمی معاشرہ ہو گا اور ہر نگ و نسل کے افراد اس کے رکن ہوں گے اور دنیا میں کہیں بھی ایک مسلمان اس معاشرہ میں اکراپنے ہی گھر کی طرح ہو گا۔ جس طرح آج ایک مسلمان ہندوستان یا پاکستان یا الجزاير کہیں سے بھی مانچسٹر یا برمنگھم کے مسلمانوں میں اکراپنے گھر، ہی کی طرح رہتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ایک عالمی سماج کی کلید ایک مضبوط مقامی سماج ہے۔ ۱۹۱۶ء میں امام احمد رضا نے اس پر عنور کیا۔ یہ مقامی طبقے درحقیقت مسلمانوں کے لئے مالی امداد کا بندوبست کریں گے اور حکومتوں پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

بوسینیا مسلمانوں کا الیہ یہ ہے کہ برتاؤ نیہ یا دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمان انھیں کسی طرح سیاسی مدد دینے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن بوسینیا پر سیاسی سرگرمی ان لوگوں نے مسلط کی تھی، جو اسلامی سوچ کے مسلمان نہیں تھے۔ اس مسلم جزیرہ کی تشكیل یا اس کا قیام اہلسنت و جماعت کے لئے اہم ترین ہے۔ دوسرے فرقے (فرقہ وہابیہ یا اہل کی شاخیں) مسلم قوم میں کوئی دلچسپی نہ رکھ کر صرف اپنے مفاد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن اہلسنت و اجماعت کے لئے یہ قوم بھی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ امت ایک مقدس شے اور اس عالم کیلئے پیغاماتِ الہی کو پہنچانے والی ہے اور اس لئے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لئے قوتِ حیات ہے اس سے قطع نظر کر کیا ہوتا ہے۔

یہ سبب تھا کہ کیوں امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کا کامل مقصد امت کو زندہ کئے ہوئے تھا؟ امام احمد رضا نے غور کیا تھا اور ہمیشہ علماء اہل سنت نے فکر کیا ہے کہ امت کو بہر قیمت مربوط رکھنا چاہئے، بہت سے مسلمان قوم کو مختلف قسم کے غیر متوقع سانحات سے خطرے میں ڈالنے ہیں، بہت سے لوگ امت سے باہر ہنے کے لئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن امام احمد رضا نے اسے مربوط رکھنے کا مقصد بنایا تھا۔ اور اسی لئے امام احمد رضا کا چار نکاتی منصوبہ بذات خود ایک مقدس عمل ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ مسلم جزیرہ ایک اچھا معاشرہ ہے؟ اس کا جواب اشبات میں ہونا چاہئے۔ اس پر مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی سعی کرنی چاہئے جس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے زندگی بسر کرانا چاہتا ہے۔ یہ سماج مسلم خاندان، مسجد، سلسلہ تصوف و طریقت اور زکوٰۃ و فطرہ و صدقہ و خیرات والی محبت اور رحم دلی سے بھر لور ایک سماج ہوگا۔ یہ علماء اور بزرگوں کے احترام والا سماج ہوگا اور یہ علماء اور اولیاء کی قیادت والا سماج ہوگا۔

ہر شے سے بالاتر یہ ایک کامل معاشرہ ہوگا۔ وہی معاشرہ کامل ہوتا ہے جو انسانوں کی اکثریت کے لئے زیادہ سے زیادہ ممکنہ خوشیاں فراہم کرتا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی ممکنہ خوشی اللہ کی رضا پر مخصوص ہوتی ہے۔ دنیا و عقبیٰ اور جنت میں ہرجگہ۔ اہل سنت والجماعت کا مقصد ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حتی الامکان وسیع کرنا۔ یہ مسلم جزیرہ ممکنہ حد تک مسلمانوں کی سب سے بڑی ملت یا امت ہوگی اور زمین یقین ہے کہ یہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے۔

اور اس طرح امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کے تحت تشکیل شدہ یہ سماج

ایک کامل سماج ہو گا جس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ خوشی میسر آئے گی، جو بہشت ہے۔ اور ۱۹۱۲ء میں پیش کردہ امام احمد رضا کے چار نکاتی منصوبہ کی اہمیت کی یہی سب سے بڑی امکانی وجہ ہے۔ اس مقام کے اختتام میں آپ لوچھہ سکتے ہیں کہ ۱۹۱۲ء میں پیش کردہ امام احمد رضا کا چار نکاتی پروگرام کتنا اہم ہے؟ جواب بہت آسان ہے اور دنیا میں اس کے سوا اتنے اہم کوئی اور منصوبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی پروپری کرن۔ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جنت میں داخل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ!

اس منصوبہ کا حیرت انگیز جمال ہی اس کی پہچانی کا ثبوت ہے۔ اس منصوبہ پر اب عمل کرنے کا وقت ہے۔

http://t.me/Tehqiqat

## امام احمد رضا برمیتوں کے سالہ ۱۹۱۲ء میں پیش کردہ چار نکات منصوبہ کو کیسے عمل میں لا یا جائے؟

میں نے گزشتہ مقاولہ میں سالہ ۱۹۱۲ء میں پیش کردہ امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کی اہمیت کا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ زیرنظر مقاولہ کور قم کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس منصوبہ کو عمل میں لانے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔

**حقیقتہ** امام احمد رضا کا منصوبہ خود اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لئے کیا کرنا ضروری ہے؟

**اول** : مسلمانوں کو حکومتی فیصلوں اور کچھ لوں سے احتراز کرتے ہوئے اپنے معاملات باہم فیصل کرنا چاہئے۔ تاکہ وہ علماء اور اولیاء کی آزادانہ قیادت کو پروان چڑھا سکیں۔

**دوم و سوم** : مسلمانوں کو اپس اسی میں خرید و فروخت کرنا چاہئے۔ بینگ نظام قائم کرتے ہوئے قوم کو وسائل کی فراہمی کی خاطر قومی تشكیل و تنظیم کرنی چاہئے۔

**چہارم** : مسلمانوں کو علم دین سیکھتے ہوئے اس کی ترویج و اشاعت کے ساتھ اسلامی قومیت کی تشكیل کرنی چاہئے۔ اس طرح اس دسیع کفری معاشرے میں ایک اسلامی معاشرہ پروان چڑھے گا اور ایک اسلامی جزیرہ کو فروغ حاصل ہوگا۔

امام احمد رضا نے سالہ ۱۹۱۲ء میں تصنیف کردہ اپنے رسالہ "تدبیر فلاح ونجات و اصلاح" میں اس منصوبہ پر عمل کرنے کے سلسلے میں کچھ امور خود بیان کئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دسیع پیمانے پر اس منصوبے کی تشهیر کے لئے عوامی جلسے کرنا چاہئے، برفزد کو دوسروں کے انتہمار کے بغیر خود اس پر عمل کرنا چاہئے اور یہ نہ سوچنا چاہئے کہ فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ معاشی بہتری کے لئے افضل خرچی سے احتراز کرتے ہوئے رقم پس انداز کرنی چاہئے۔ کاروبار و تجارت کی طرف توجہ دینی چاہئے اور زیادہ منافع خوری کے بجائے تجارت کو مستحکم کرنے پر توجہ

بندول کرنی چاہئے۔ مزید فرمایا کہ مسلمانوں کو علم دین کو بنظیر تھارت نہ دیکھ کر تعییم دنیا اور کفری یونیورسٹیوں اور ڈگریوں کے پیچھے نہ بھاگنا چاہئے۔ مسلمانوں کو علم دین اور علماء کو حفیہ سمجھنے سے باز رہنا چاہئے۔ خود کو دلیوالیہ پن سے بچائے رکھنے کے لئے اذ چیلے قانونی معاملات اور کفری کچھروں سے احتراز کرنا چاہئے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اچھا برداشت کرنا چاہئے۔ اور اپنے جھگڑوں کو شریعت کی روشنی میں فیصل کرنا چاہئے۔

بم اس بات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کو کس طرح عمل میں لانا چاہئے؟ اول یہ کہ مسلمانوں کو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کا درس دینا چاہئے۔ قوم کو خود اپنی قدر و قیمت کی پہچان سیکھنی چاہئے۔ ہمیں امرتِ مسلمہ کو اپنا اور تمام عالم کا مرکز تصور کرنا چاہئے۔ ہمیں اسے اپنا کنہبہ اور اس دنیا میں اسے اپنا سہرا اور اساس مستصور کرنا چاہئے۔ ہم اس طرح کی سوچ سے اس منصوبہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مسلمان اپنی کمیونٹی کو صرف اسی صورت میں پروان چڑھا سکتے ہیں جب وہ اسے اپنی زیست کا مرکز و محور مان لیں۔ آج بہت سے مسلمان مسلم کمیونٹی کو چھوڑ دینے کے لائق سمجھتے ہیں۔ دراصل ان کو اصل محبت کفری سماج سے ہے۔ وہ متحده ریاست ہائے امریکہ جیسے مقام پر رہنے کے متمنی ہیں، اور وہاں بھی مسلمانوں کے درمیان نہ رہ کر خود کو کفار کے مساوی سمجھ کر انھیں کے نیچ رہنا چاہتے ہیں۔

مانچستر جیسے مقام پر بہت سے مسلمان جو نہی دولت کی لیتے ہیں، اپنے لئے مسلم علاقوں سے دور مکان خریدتے ہیں۔ اپنے کو برلنیوی نظاہر کرنے کے لئے وہ اپنے بچوں کو پاٹشیٹ POSHESST اسکولوں میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ کیمرون تعییم یافتہ انگریزوں کی حیثیت سے انھیں پروان چڑھا سکیں۔ اگر آپ ان سے ملیں تو وہ انگریزی انداز میں برداشت کریں گے۔ آپ ان کے یہاں ایک گھنٹہ بیٹھیں تو صرف ایک بیکٹ پیش کریں گے ان کا یہ برداشت صرف اس لئے ہے کہ وہ مسلم معاشرہ کو حفیہ سمجھتے ہیں اور اس سے نجات پانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مگر افسوس (بد قسمتی سے) ان کے سفید فام پڑوں سی اس پر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔

مقصد ہے اصل کیونٹی کی قدر و قیمت کی پہچان۔ اس میں اگر کوئی خامی ہے تو اسے دور کرنا چاہئے کہ اس سے دور بھاگنا چاہئے، ہمیں اپنے غریب اور جاہل مسلم برادران سے خود کو دور رکھنے کے بجائے انھیں اس پستی سے نکالنا چاہئے، کیونٹی اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتی جب تک لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ کیونٹی، یہ امت ایک مقدس شے ہے اور خود اسلام کا ایک پیغامہ اور سچائی کی پرکھ کے لئے معابرہ امت ہے۔ مسلمانوں کو بلاشک و شبہ یہ جان لینا چاہئے کہ وہ اپنی حقیقی زندگی اپنی ملت ہی میں بسر کر سکتے ہیں۔ کفار مسلمانوں کو کفری معاشرہ میں کہیں بھی مقام دینے کو تیار نہیں۔ ایک مسلمان خود کی زندگی کو اپنی مسلم کیونٹی سے مرکز کئے بغیر کبھی کا میابی نہیں حاصل کر سکتا۔ مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا و سکھانا چاہئے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ اور اللہ ہر مسلمان سے بہت محبت کرتا ہے۔ یوم حشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شفاعت فرمائیں گے کہ ہر مسلمان کو دوزخ سے نکال لے گے لہذا ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا چاہئے۔ امام احمد رضا کے منصوبہ کے مطابق مسلمانوں کو اپس ہی میں خرید و فروخت کرنا چاہئے اور اپنے سرماہ کو اسلامی بینک میں اپنے مسلم بھائی کی مدد اور معاشی فلاح کی خاطر جمع کرنا چاہئے اور انھیں روزگار دینا چاہئے۔ لیکن اگر مسلمان ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں تو امام احمد رضا کے منصوبہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہئے کہ ایک شخص کیسا بھی ہو وہ بہرہ میں اپنے خاص ہے اس لئے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس خیال کا مطلب ہے مسلمانوں کے فکر میں انقلاب۔ بہت سے مسلمان مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ غیبیت کرتے رہتے ہیں اور انھیں کوڑے کی طرح خود پر بوجھ سمجھتے ہیں۔

گلاسکو کے ایک مسلمان نے مجھے بتایا کہ ایک مسلمان کیفے کھولتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے کارو بار کو ختم کرنے کے لئے دوسرا مسلمان اسی کے برابر اپنا کیفے کھول لیتا ہے۔ اس طرح کے نتیجے ہونے والے لامتناہی جنگلوں اور محاصرتوں اور مساجد کے اندر مناظرہ بازی وغیرہ سے ہم بخوبی واقف ہیں۔

یہ رویہ نہ صرف یہ کہ گھناؤنا بلکہ غیر اسلامی ہے۔ اور اسلام غیبت کا سخت مخالف اور اس بات کا حامی ہے کہ ہمیں اپنی ہی طرح دوسروں کی بھلانی کی بات بھی سوچنی چاہئے ہمیں مسلمانوں سے تنفس اور محاصلت وغیرہ کا رویہ ترک کر کے اسلامی رویہ اپنانا ہو گا ورنہ جم مخصوصہ امام احمد رضا کو لائق عمل نہیں بناسکتے اور نہ ہی قوم کی تشکیل کو کامیابی سے ہمکنا کر سکتے ہیں۔ ہر مسلم و مسلمہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہم سب کو ساتھ میں جنت میں جانا ہے۔ امام احمد رضا ایک صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور ہمیں یہ نہیں سمجھوں چاہئے۔ مسلمانوں میں آپسی نفرت و تعصیب گمراہ قسم کے یہ ٹروں کا پھیلا یا ہوا ہے۔ وہ عام مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انھیں مشرک بتاتے ہیں اور قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں وہ ان مسلمانوں کو اور ادو و ظالہ اور عید میلاد النبی منانے کی وجہ سے انھیں ہدف تنقید بناتے ہوئے شرک کا فتوی دیتے ہیں۔ وہ پولیس یعنی کی طرح دوسرے مسلمانوں پر سلط رہتے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کے عجیب و گناہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان سے ہنگامے ہترتے ہیں، تعصیب و سختی بر تنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

یہ لوگ حقیقی ملت کے امکان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد حقیقی کمیونٹی کی بر بادی اور صرف اپنی طاقت کا حصول ہے۔ ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کی خامیوں کو درگزر کرتے ہوئے انھیں برداشت کرنا چاہئے۔ ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھنے چاہئے۔ جوانوں پر شفقت کرنی چاہئے۔ یہ سوچنے ہوئے کہ اس شریر دنیا میں ان کی زندگی کس قدر سخت دشوار ہے۔ ہمیں ان کی بہت سی شرارتیں اور نادانیوں کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ ان نوجوانوں کی نادان حرکتوں کی وجہ صحیح مسلم قیادت کا فقدان ہے۔ ہمیں ان مسلمانوں کو بتانا چاہئے کہ اسلام خوشی عطا کرنے والا دین ہے۔ اور مسلمان بن کر ہی رہنے میں خوشی اور حقیقی زندگی ہے۔

کمیونٹی سے علیحدہ بھٹکنے والے مسلمانوں کو خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ منتیات و جرائم کے ذریعہ اڑا لئے جانے والے اور مگرہی میں بھٹکنے والے نوجوانوں کو والپر منلانے کے لئے ہمیں ایسی تنظیمیں بنانی چاہئے جہاں ہم انھیں

خوش آمدید کہہ سکیں۔ ہمیں روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کو خواہ وہ عربی، ایشیائی، افریقی، انڈونیشی وغیرہ کوئی بھی ہوں اپنادوست اور بھائی سمجھنا چاہئے اور برابری کے ساتھ انھیں خوش آمدید کہنا چاہئے۔ آج مسلمانوں میں ذات برادری کا تعصب ہے، ان سے چھٹکارا پانا چاہئے یہ سراسر غیر اسلامی روایہ ہے۔ مثال کے طور پر عرب ایشیا یوں سے کس قدر خصوصت رکھتے ہیں۔ لیکن بلاشبہ یہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے درمیان نفرت و تعصب پھیلارہی ہے۔

اگر ہمیں مسلمانوں سے محبت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اپنی زندگی کو ان کے پسچ مرکوز رکھیں گے۔ انھیں سے کاروبار کریں گے۔ انھیں روزگار دیں گے۔ امت مسلمہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر فرد امت سے محبت کیجیے جائے۔

**سوہم :** مسلمانوں کو خود اپنی ذاتی، سیاسی اور قومی قیادت کی نشوونما کرنی چاہئے۔ یعنی قومی قیادت کے لئے علماء اور اولیاء کی تربیت اور نشوونما اور پہلے سے ذریعہ قیادت ادا کرنے والے حضرات کا احترام کرنا چاہئے۔ لیکن یہ علماء اولیاء کی نشوونما اور تربیت کا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے خاص قسم کا مرحلہ ہے۔ اور اس کے لئے مکمل طور سے اسلامیات کی تعلیم و تربیت دینی پڑے گی اور تب تک ایک شخص تینیں یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے سینکڑوں لوگوں کی تربیت دینی پڑے گی۔

آج مناسب قومی قیادت کے لئے ایک نظام تعلیم اور ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے جو اس کی حمایت اور مدد کرے۔ علماء کی تربیت کے لئے مدرسہ ضروری ہے اور بعد از فراغت بحیثیت مدرس ملازمت بھی ضروری ہے۔ اس کے لئے اسلامی کتب کے ناشرین رسائل و جرائد اور ترجیحات یڈیو اور ٹی وی بھی چاہئے۔ اپنے نظریات کی تشهیر اور پوری قوم تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لئے اور ایسی حالت میں مسلمانوں کو نام نہاد لیڈروں سے (اپنا کیریئر بنانے والے، مطلب پرست اور کالسیس لیڈروں سے) بہت کر آگے آنا ہوگا۔ یہ لیڈر اپنے مفاد کی خاطر اور نسلی رشتے کے کارخانے کو برقرار رکھنے کے لئے، مزدور لیڈر، جمہوری اور سیکولر ٹائم پلیڈروں کی تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسیٹ کو نہ دیکھو کر اپنی کیوٹی

کے بھی اداروں کو دیکھنا چاہئے۔ اکثر لیبرل پارٹی نے سیکڑوں ہزاروں مسلمانوں سے دوٹ  
حاصل کئے ہیں اور پدلے میں انھیں کچھ نہ دے کر صرف ہجرت کا قانون دیا ہے اور سلامان  
رشدی کی تائید کی ہے۔

کمیونٹی کے باہر کی تمام سیاسی سرگرمیاں کیونٹی کو صحیح مدد دینے کے لئے ہوئی چالیں  
امام احمد رضا کا کامل منصوبہ اسٹیٹ سے درگزر اور خود مختاری کا منصوبہ ہے۔ انگلینڈ میں  
یہ بات ممکن ہے مگر فرانش جیسے ملک میں حکومت کا کنٹرول دم گھونٹ دینے والا ہے۔ وہاں  
سلامان جس طرح برطانیہ میں اسلامک ڈھنڈ میگزین نکال رہے ہیں اس طرح میگزین کی اشاعت  
نہیں کر سکتے۔ اج کے مصر میں کوئی بھی تنظیم اسٹیٹ یعنی پولیس کی اجازت کے بغیر وجود میں  
نہیں آسکتی۔ ایسے مقام پر اور ایسے عالم میں امام احمد رضا کا منصوبہ لائیں عمل نہیں ہو سکتا۔  
اس لئے مسلمانوں کا سیاسی مقصد ہونا چاہئے درگزر اور خود مختاری۔ امام احمد رضا کے  
منصوبے کے تمام نکات کا مقصد ہے کہ کمیونٹی خود عمل کرے، اسے اسٹیٹ یعنی حکومت سے  
کسی طرح کی مدد یا حمایت نہیں لیں چاہئے۔ اور اس مقصد کے لئے لیبرل اور لبرل پارٹیوں  
کے نزدیک جانے کی کوئی ٹری وجہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے منصوبے کے کلی نکات کی  
غرض ہے قوم کی خود مختاری اور اپنی آزادی۔ اگر آپ معاشری اور معاشرتی طور سے خود مختار  
ہیں تو سیاسی طور سے بھی آپ کو خود مختار ہونا چاہئے اور تہذیبی طور سے بھی۔ آپ کو  
کفار سے خیالات اور تہذیب کے حصوں کے لئے ان کے پچھے نہیں بھاگنا چاہئے۔ اور  
یہی ہے علماء و ادبیار کی مناسب قیادت اور تعلیم اور ذرائع ابلاغ کی نشوونما، کیونکہ یہ مسلمانوں  
کو ان کی خود مختاری نے لئے ضروری فکر و خیال فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جو سیکور  
یونیورسٹیوں اور مفکروں ہی کو لائیں تقلید و احترام سمجھتے ہیں، اور اسی دنیوی ڈگری اور  
تعلیم کو کامیابی کا اصل نشان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے باز رہنا چاہئے۔

**چہارہم:** مسلمانوں کو پورے طور سے اسلامی اداروں کی نشوونما کرنی چاہئے۔

ہمیں علماء کی قیادت والی عدالت شرعیہ قائم کرنی چاہئے۔ یعنی زیانہ ماضی کی جامعہ ازہر مصر  
کی طریقہ مسجد و مدرسہ کے نظام کو رائج کرنا چاہئے۔ زکوٰۃ و فطرہ کے ذریعے غرباء کی امداد

اور دوسرے سماجی امور کو پورا کرنا چاہئے۔ خواتین اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا انتظام ہونا چاہئے۔ طریقت کو فروع دینا چاہئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صوفیا نے طریقت کے نظام کے تحت قومی و ملی تعلیم کا کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب اس طرح کے ادارے کام کریں گے تو امام احمد رضا کے منصوبے کو عمل میں لانا آسان ہو گا۔

اب پیر چند اہم امور میں جنہیں امام احمد رضا کے چار نکاتی پروگرام کو بروائے کاررانے سے قبل کیا جانا چاہئے۔ اگر مسلم مکیونٹی معاشرے میں ایک آئی لینڈ (جزیرہ) کی حیثیت پر وان چڑھادی جائے تو امرت کا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کرے گا، علماء اور اولیاء کی مناسب رہنمائی ہو گی اور اسلامی اداروں کو مکیونٹی کے اندر فروع دیا جا سکے گا۔

ہمارے قارئین پوچھ سکتے ہیں کہ اس منصوبے پر کون کس طرح عمل کرے تو جواب اسان ہے۔ اس منصوبے کو لاکھوں میں سے ہر فرد مسلم کو عمل میں لانا چاہئے۔ امام احمد رضا کا مقصد تھا عمل کرنے والی خود کا رقوم۔ انہوں نے چند نمائدوں، حکومت یا سیاسی جماعت پر نہ تو بھروسہ کیا نہ کسی کو اس طرح عمل پیرا ہونے کو کہا۔ انہوں نے ہر فرد مسلم کو اس کی دعوت دی اور بتایا کہ اس کے لئے جلسے کر کے لوگوں سے اس منصوبے کو چلانے کی اپیل کرنی چاہئے۔ تو ایسا جامع منصوبہ ہے کہ کوئی بھی ابھی اسی وقت یا آج ہی سے اسے عمل میں لے آئے۔ ایک فاتون خانہ بھی اس کے لئے آج ہی سے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ حضیرہ فیصلہ کر کے کوہ مسلم دکان سے ہی سودا خریدے گی۔ ایک طالب علم یہ طے کر کے کہ اسے اپنا مستقبل سنوارا ہے اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کے درمیان بھلائی کا کام کرنا ہے۔ ایک گھرانہ یا خاندان بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لئے ایک ایسا مکان منتخب کر کے جو مسجد کے نزدیک ہو، ایک تاجر یہ فیصلہ کر کے بہت کچھ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ مسلمانوں کی مدد اور معاشی ترقی کے لئے کاروبار میں لگائے گا۔ کوئی بھی بھیتی لیڈر اس منصوبے کے کسی بھی حصے پر عمل کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان خود کو عالم بنانے کا فیصلہ لے کر، ایک دوسرا نوجوان خود کو میدان تصوف میں اتنا نے کا فیصلہ لے کر اور پھر صوفی بن کر بہکے ہوئے نوجوانوں کو مکیونٹی میں واپس لانے کا عزم کر کے بھی اس منصوبے پر عمل

کر سکتا ہے۔

امام احمد رضا کے منصوبے میں ہر مسلم کو کچھ کچھ کر سکتا ہے۔ اور قومی ہیر و یاقائد بن سکتا ہے۔ اسلامی تجدید شخصی اقتدار و طاقت یا چند منتخب لوگوں یا کسی سیاسی جماعت کی طاقت و اقتدار کا نام نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے اقتدار و طاقت کا نام ہے۔

امام احمد رضا کا منصوبہ لاکھوں کی فلاح کا منصوبہ ہے جو ساتھ مل کر اللہ کی اس زمین پر حکومت الہیہ والامعاشرہ اور نظرِ قائم فائم کر دیں گے جیسا کہ سابقہ مقاول میں بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان اگر اس منصوبہ پر رضا پر عمل کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی مسلم کمیونٹی میں ہی خوش آمدید کہے جائیں گے اس پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے شعوری طور پر کچھ کرنے کی۔

اب ہمارے قارئین سوال کر سکتے ہیں کہ اس منصوبے پر کب عمل پیرا ہوا جائے اور اس کے لئے کیا مدت درکار ہوگی؟ جواب آسان ہے اس منصوبہ پر کسی بھی وقت کسی بھی رفتار سے عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے اپ اس پر آج ہی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں کسی بھی مسلم روکا مدار سے سوراخ زد کر اور کسی بھی مسلم کی معاشی ترقی کے لئے اپنی رقم کار و بار میں لگا کر پا کچھ سال میں ایسا کر سکتے ہیں اپ آئندہ سال کے لئے کسی مسلم محلہ میں یا مسلمان کے پڑوس میں مکان خریدنے کی بات سوچ کر بھی اس منصوبہ پر عمل کر سکتے ہیں عالم بننے کے لئے ایک لمبی مدت درکار ہے لیکن طریقہ میں شمولیت فوری ممکن ہے۔

یہ منصوبہ ابھی سے لے کر دہائیوں اور صدیوں تک کا منصوبہ ہے اگر ہم اس منصوبہ پر عمل کرتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کی نشوونما اور اسے فروغ دیتے ہیں تو انشاء اللہ ایک دن انگلینڈ مسلم اکثریتی ملک ہو سکتا ہے لیکن وہ مدت ایک صدی یا پانچ صدی کی بھی ہو سکتی ہے ویسے ہم اسے چلانے کے لئے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے آج سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ ایک زمانہ میں صرف چند لوگ انڈونیشیا میں اسلام لائے تھے اور آج دہائیں لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں اپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی کا کیا موقع ہے؟

جواب آسان ہے یہ منصوبہ دراصل وہی تھا کہ مسلم دنیا کا کتنا بڑا حصہ مسلمان بنا

اور مسلمان ہی بنائے رکھا گیا۔ کیونکہ گزشتہ ہزار برس اور اس سے زائد مدت سے ہمارے صوفیاء اور علماء کی امام احمد رضا کی طرح ہی پالیسی تھی۔

لیکن ہم سبھی خریدار ہوں یادوکار، قرض دینے والے ہوں یا لینے والے، بیڈر ہوں یا پیرد، استاد ہوں یا شاگرد، اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ آج کا ہے اور ہر مسلمان کے لئے ہے۔

ہم نے اب دیکھ لیا کہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبہ کو کس طرح کام میں لاٹیں گے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرے۔ اگر لاکھوں مسلمان میں سے ایک اس منصوبے کے تحت کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو جلد ہی مسلمان اپنی ناتوانی، ناکامی اور کسپرسی سے بحالی حاصل کر سکیں گے۔

اس کلید میں سب سے بڑی اور اہم کلید ہے اسلام، مسلمین، شریعت اور علماء سے محبت، اور سب سے بڑی کلید ہے اپنے بُنیٰ جمیں صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد سے زائد محبت، ادب و احترام اور پیروی!

ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ ہم اس منصوبے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بحاثت اور آخرت میں ان کے حصول جنت کے لئے عمل میں لاٹیں گے۔

# مسلم اکثریتی ممالک کے لئے امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چار نکاتی پروگرام کی ہمیت

امام احمد رضا کا چار نکاتی پروگرام واضح طور پر برطانیہ جیسے مقام کے لئے برمحل اور اہم ہے۔ ۱۹۱۲ء کا یہ منصوبہ مسلمانوں کو حکومت سے قطع نظر مسلم مکینوٹی کو پرواں چڑھاتے ہوئے کافر سماج میں ایک مسلم جزیرہ کی تشکیل کی صلاح دیتا ہے۔ اور ایک آزاد و خود مختار مسلم معیشت اور مسلم تہذیب کو علماء و اولیاء کی قیادت و رہنمائی میں فروع دینے کا درس دیتا ہے۔ برطانیہ میں مسلمان، ملک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں اور انکے واسطے کسی بھی خود مختاری کا مطلب ہے ایک وسیع معاشرہ میں ایک جزیرہ کی حیثیت اختیار کر لینا۔

اب مسئلہ ہے کیا امام احمد رضا کا منصوبہ مصر، بوسنیا، پاکستان اور ترکی جیسے بڑی اکثریت والے مسلم ممالک میں برمحل اور اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا ان ممالک میں مسلم جزیرہ کی نشوونما کوئی معنی رکھتا ہے اور کسی مسلم کو یہ حل کرتی ہے؟ اس مقام میں یہی دکھایا جائیگا کہ مسلم اکثریتی ممالک کے لئے امام احمد رضا کا ۱۹۱۲ء کا منصوبہ بہت ہی اہم ہے۔ اور ان ممالک کے ان بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے جن سے یہ ممالک آج دوچار ہیں۔

دیسے تو یہ ۱۹۱۲ء کا چار نکاتی پروگرام برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لئے پیش کیا گیا تھا جو اس وقت اقلیت میں تھے اور برطانوی عیسائی غالب و حکمران تھے۔ لیکن اس پروگرام کا بیشتر حصہ کسی بھی مقام و ملک کے مسلمانوں کے لئے برمحل ثابت ہو گا۔

امام احمد رضا نے مسلمانوں کو اسلام کی بہتری کی خاطر فرد آفریداً اپنی حد تک بہتر سے بہتر کام کرنے، فضول خرچی سے بچنے، کاروبار و تجارت کا رو یہ اپنا نے، تعلیم دنیا اور ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے اور خود کو دیوار پر پس سے بچانے کی خاطر سیکولر کچھریوں سے احتراز کرتے ہوئے

اپنے محققوں کے اور معاملات شریعت کی روشنی میں باہم فیصل کرتے۔ علم دین اور علماء و اولیاء کو بنظر حقارت نہ دیکھ کر قدر کی نگاہوں سے دیکھتے اور علم دین کی ترویج کرتے۔ "مسلم جزیرہ کی تشکیل کا امام احمد رضا کا ۱۹۷۴ء کا منصوبہ مسلم اکثریتی ممالک کے لئے بمحض ہے کیونکہ وہاں آج اسلام کی حیثیت صرف ایک جزیرہ ہی کی سی ہے" بیشتر ملکوں میں برائے نام بھی اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ترکی جیسے ملک میں بھی قطعاً سیکور حکومت ہے۔ عراق اور شام جیسے ملکوں میں عرب نیشنلزم کے نام پر حکومت قائم ہے، بہت سے ممالک جو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں بھی بہت ہی معمولی طور پر اسلامی حکومت ہے۔ اور اکثریت اس کے اسلامی نہ ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ حکومتیں چوروں کے ہاتھ ضرور کاٹتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو خوش کرنے کا یہ بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت اسلامی ہونی چاہئے نہ کہ سیکور!

حقیقتہ تاماً مسلم ممالک میں شرعی قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ بلکہ ایک طرح سے وہاں مغربی قانون کی نفاذی ہے۔ شریعت یا تو وہاں بالکل نافذ ہی نہیں ہے یا صرف ثناواری اور وراثت وغیرہ امور کے فیضانے کے لئے چند اسلامی قانون وضع کر لئے گئے ہیں اور حکومت صرف انھیں معاملات میں شریعت پر عمل کرتی ہے بس۔ حقیقتہ مسلم ممالک میں علماء اور بالخصوص اوس پر کا کوئی رول نہیں ہے۔ سلسلہ طریقت پر جبراہت سے مسلم ممالک میں پابندی عامد کردی گئی ہے۔ وہاں علماء تو ہیں لیکن ان کے پاس زر ہے نہ کوئی منصب۔ اوقاف جو مدرسون اور مساجد میں چلنے والے جامعات کی مالی اعانت کرتے تھے مدت ہوئی حکومت نے انھیں اپنایا۔ عدالتی میں بھی علماء کو کوئی رول نہیں دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اثر رکھتے بھی ہیں تو اپنے چندوسروں میں ذاتی اثر کی وجہ سے۔

ان مسلم اکثریتی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت بر طایہ کی حالت سے مشکل سے ہی مختلف ملے گی۔ جہاں حکومت اور قانون اسلامی نہیں ہے اور علماء و اولیاء بے زر دبے زور ہیں۔

لیکن اس کے باوجود اکثر مسلم اکثریتی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت

برطانیہ سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ بہر حال برطانیہ میں مسلمان کو بحیثیت مسلمان اپنی قوم کی تنظیم کی آزادی حاصل ہے۔ بیشتر مسلم اکثر یہی مسلم مالک میں اسلام اور مسلمانوں پر حکومت کی گرفت بہت سخت ہے۔ حکومت خود بلا واسطہ انہر مساجد کا تقریر کرتی ہے اور ان کی تقریروں پر بھی کنٹرول رکھتی ہے کہ انھیں کیا بولنا چاہئے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد کی تعمیر بھی نہیں کی جاسکتی۔

”ان سو سائیلوں میں مسلمان ایک ایسے جزیرہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو بہت سے معاملات میں جیل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حالت خصوصاً ان حکومتوں کی ہے جو واقعۃِ اسلامی ہونے کا دخوی کرتی ہیں۔ لیکن جہاں فرقہ دارانہ دستور بھیانک طور پر قائم ہے اور پولیس ان لوگوں کا تعاقب کرتی رہتی ہے جن پر صحیح عقیدہ نہ ہونے کا شک ہوتا ہے۔ جیسے بیلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوادہ سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہاں روہایی حکومت جیسا کہ سعودی عرب میں ہے اور اس طرح کے عقیدے والوں کو وہاں کی پولیس مشکوک سمجھ کر انھیں تنگ کرتی ہے،) روایتِ اسلام یعنی سنیت پر پابندی ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام معاشرہ میں ایک جزیہ کے علاوہ مکمل طور پر موجود ہے تو یہ بات مشکوک مانی جائے گی۔ اور بیشتر مسلم ممالک میں سچے اور دیندار مسلمان کفر کے ایک سمندر میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں آپ اسلامی تہذیب کو سقیم حالت اور وایبات غیر اسلامی مغربی تہذیب کا غلبہ دیکھیں گے۔ ان ممالک کی کشیر ابادی میں مدد و دعے چند ہی اسلام کا حقیقی علم رکھتے ہیں، جیکہ اکثریت بے ہودہ قسم کی جنیات اور تشدد سے پرلمیں دیکھتی نظر آئے گی۔ برطانیہ میں مسلم گھرانے اور مسلم نوجوان اسی طرح کی چیزوں کی مجرمانہ تحریف میں مبتلا ہیں۔ تعلیم پر حکومت کا کنٹرول اور غلبہ ہے جو بچوں کو ہر طرح کی مضبوک نیز نظریات کی تبلیغ کرتی ہے۔

بیشتر ممالک میں خود مختار مسلم معاشرت مفقود ہے اور اس پر حکومت، نائب اسٹریڈ اور غلبہ ہے۔ اور اس کا نظام بجاے مسلم کمیونٹی کے مانند ہونے کے کیونزم کی مانند ہے۔ وہاں

کوئی مسلم کیونٹی اور مسلم تہذیب نہیں ہے اور نہ ہی مسلم قیادت، اور حکومت اسلام اور ہر شے جو اسلامی ہے اسے کچل رہی ہے۔ اسلام ایک محدود جزیرے میں کچھ اچھی حالت میں ضرور ہے مگر اس جزیرہ یا سماج کی حالت بہت بدتر ہے۔ اسی طرح جس طرح استھان کے روسریں اسلام کی حالت تھی کروہ لوگوں کے دلوں میں تو تھا لیکن عوامی سطح پر پورے طور سے نہیں تھا۔

"ایسے مالک میں مسلمانوں کے وجود کے لئے ۱۹۱۲ء کا منصوبہ ہی کاگر ہو سکتا ہے۔ ایسے سماج میں اسلام پھر سے بڑھنا شروع ہو سکتا ہے اگر اسے آئی لینڈ (جزیرہ) کی حیثیت سے پروان چڑھایا جائے، جیسا کہ امام احمد رضا کا منصوبہ تھا۔ پھر اگر یہ نشوونا پاتا ہے تو بڑھنے پھیلنے کے لائق ہو جائے گا اور غیر اسلامی معاشرے پر ان مالک میں جھا جھائے گا، اور نتیجتہ حکومت کو متاثر کر کے صحیح اسلامی حکومت کا قیام نہ کرے گا۔

بے شک ہر مسلم ملک اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ انتہائی حالات میں ہے۔ مثال کے لئے..... پاکستان میں صورت حال عجیب و غریب ہے الجزائر کے صورت حال کے مقابلہ میں۔ اس لئے کہ کوئی بھی جو ۱۹۱۲ء منصوبہ پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے۔ اسے اپنے ملک یا علاقے کی صورت حال پر باقاعدگی سے عذر کر لینا چاہئے۔ ہر مسلم ملک کا معاملہ مختلف ہے، مقامی لوگ جو اصل حالات سے واقف ہیں انھیں خود اسے تین مطالعہ کرنا چاہئے۔ لیکن یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اس ۱۹۱۲ء کے منصوبے کا کم سے کم حصہ ہر مسلم ملک کے لئے بر محل ہے۔ دنیا میں آج کہیں بھی اسلام ایک جزیرہ کے سوا اور کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا ہیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ مغرب کی آمد سے پہلے اسلام معاشرہ میں ایک جزیرہ ہی کی حیثیت سے تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ جزیرہ شاذارروایتی تہذیب اور دولت و ثروت کی جا تھے ا جہاں بہت زیادہ ذہین افراد کی قیادت تھی۔ مسلم علماء، امام غزالی رضی اللہ عنہ کی روایات کے پیرد تھے اور روحانی پیشواؤں کی رہنمائی تھی اور بڑے سلسلہ اطریقت خوب پروان چڑھ رہے تھے۔ نویں اور دسویں صدی عیسوی میں خلافت کے خاتمے کے بعد اسلام صرف ایک جزیرہ کی حیثیت سے باقی رہ گیا تھا۔ چونکہ اسلامی حکومت ختم ہو چکی تھی، معاشرہ پر مسلمانوں کا

کنڑوں نہیں رہا۔ اس عمل نے ۱۲ویں صدی عیسوی میں منگولوں کے ہلاکت خیز حملے کو عروج پر پہنچایا۔ تب مسلمانوں نے اسلامی جزیرہ کی تشکیل پر کام کیا اور اپنے معاشرے اور تہذیب کو پروان چڑھاتے رہے اور بھر صدیوں بعد معاشرہ اور حکومت پر غلبہ حاصل کرنے کے لائق ہوئے اور اپنی حکومت قائم کی جیسے سلطنتِ عثمانیہ اور سلطنتِ مغلیہ وغیرہ، مسلم علماء اور اولیاء مسلم معاشرہ و تہذیب پر اپنا دباؤ قائم رکھے ہوئے خود حکمران پر بھی غالب رہے۔

جب مغربی قوم مسلمانوں پر غالب آئی تو اس نے اسلامی جزیرہ کو پامال کر دیا۔ اس کے ترجمان علماء اور اولیاء دور پھینک دئے گئے۔ مغربی قانون اور تہذیب کا غلبہ ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرعی قانون کی جگہ ملکی قانون نافذ کر دیا گیا۔ ۱۹۱۲ء میں امام احمد رضا نے اسی منصوبے کی تجدید فرمائی جسے اسلاف صدیوں قبل عمل میں لا چکے تھے۔ انہوں نے کوئی نیا نظریہ نہیں پیش فرمایا۔ وہ مجدد اسلام ہیں نہ کسی نئے نظریہ کے بانی!

۱۹۱۲ء تک بلاشبہ مسلمانوں نے عام طور سے دوسرے منصوبوں پر عمل کیا ہے جو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے والے جدید نظام حکومت کے منصوبے تھے۔ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ آج بھی اہم ہے، کیونکہ جدید طرز حکومت ناکام ہو چکا ہے اور ناکام ہو چکے ہیں جدید نظام پر مرکوز تمام منصوبے! آج مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں انھیں ۱۹۱۲ء کا منصوبہ رضاہی حل کر سکتا ہے۔ کیونکہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔

بیشتر مسلم ممالک میں اسلام معاشرہ کے اندر سخت کنڑوں میں مقید کر دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان ۱۹۱۲ء کے منصوبہ پر عمل کر کے اپنا آزاد اسلامی جزیرہ پروان چڑھاتے اور اسے تہذیبی اور معاشرتی طور پر خود مختار بناتے تو یہ مسلمان اور اسلام کے لئے بہت بڑا عملی اقدام ہوتا۔ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ تمام مسلم معاشروں کے لئے الگ اور سب کو ملا کر ایک مکمل معاشرہ کی حیثیت سے مسلمانوں کو مسائل کے حل کا مقابل فراہم کرتا ہے کیونکہ حکومت اور اس پر مکروز تمام منصوبے ناکام ہو چکے ہیں اور مسلم ممالک کی حکومتیں یہی

ابڑی کے عالم میں ہیں کہ صرف ۱۹۱۲ء کا منصوبہ ہی واحد عملی اقدام ہے۔ حکومت کی ناکامی کا علاج ایک خود مختار اور خود کار معاشرہ ہے۔

مسلم دنیا میں حکومتیں کئی طرح سے ناکام ہو چکی ہیں۔ اول حکومتی کنسٹرول کی عیشت ایک صعیبت ہے۔ اس نے الجزاں جیسے ملک میں بیرونی روزگاری اور افلاس کی راہ رکھائی ہے تو سیال گئی انڈسٹریاں مایوس کن حد تک ناقابل کار کر دگی ہیں اور ملکیں دینے والوں پر ایک بارگراں۔ کچھ جو حکومتی سیکٹر میں لگی ہوئی ہیں وہ مالدار نہیں ہیں۔ اور قومیانی گئی انڈسٹریوں سے باہر کثیر تعداد بھیانک غربت میں بنتا ہیں اور جو لوگ سخت بیرونی روزگاری کی صعیبت جھیل رہے ہیں وہ غریب عام مسلمان ہیں۔ مغرب زدہ لوگ حکومتی روزگار پانے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں شہربھی اس دیہی علاقے سے بہتر کام کر رہے ہیں، جہاں سنتی مسلمان آباد ہیں۔

ان ریاستوں میں گورنمنٹ ہی سارے اختیارات رکھتی ہے، لیکن مکمل غیر ذمہ دار اُب وہاں گورنمنٹ اور حکومتی عملہ پر کوئی روک نہیں ہے جو من مانی کرتے ہیں: کیونکہ پورے معاشرہ پران کا کنسٹرول ہے۔ اور روزمرہ کے معمولی معاملات میں بھی داخل اندازی کا انھیں زبردست اختیار حاصل ہے۔ نتیجتاً وہ کرپ (بداطوار) ہو گئے ہیں اور یہ سب تمہرہ ہے مغرب زدگی کا جو کنسٹرول سے باہر ہے اور سنتی مسلمان رشوت خور حکومتی عملہ کا شکار ہے۔

مگر حکومت کی عظیم ناکامی کا سبب صرف یہی امور نہیں ہیں بلکہ یہ خود حکومت کے کنسٹرول سے باہر ہو جانے کی بے ہودہ لڑائی ہے جو بیشتر مسلمان ممالک کو الگ سے چیرچاڑ رہی ہے۔ ہندوستان اور برطانیہ جیسے ممالک میں جس سلسلہ سے مسلمان دوچار ہیں وہ ان پر برٹش یا برپارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی فرقہ پرست اور متعصب جماعتوں کے جارحانہ چلے ہیں۔ گزشتہ مقالہ میں یہ بتایا گیا کہ حکومت کے کنسٹرول سے باہر ہو جانے کے سبب بیکار کے جنگروں وغیرہ کا حل ۱۹۱۲ء کا منصوبہ کس طرح حل کر سکتا ہے۔ مسلم دنیا میں مسلمان حکومتی کنسٹرول کے سلسلے میں فرقہ وارانہ اقویٰ اور مغرب زدگی کی عصیت اور رقابت کی خوفزدگی میں بنتا ہیں۔ جیسے ترکی میں کردوں اور ترکوں، عراق اور شام میں شیعہ سنتی اور الجزاں میں فرقہ

اور عربی ایت وغیرہ کے جھگڑے، تصادم اور رقابت اور اس کے نتیجے میں سلم مالک بولوار کے قریب ہیں۔

وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اگر صرف حکومت میں اصلاح کر دی جاتی تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر صرف کردوں، شیعوں یا غیر مغرب زدہ لوگوں کی حکومت ہوتی تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتے۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر صرف حکومت میں اصلاح کر دی جاتی یا اسے مزید طاقت دے کر دیسیع کر دیا جاتا تو کیسے بھی یہ مسائل ختم ہو جاتے۔ یہ خیالات کہ ان تبدیلیوں کے حصوں سے پولیسی حراست اور رشوت خوری کا معاملہ مختلف ہوتا، اصل میں درست نہیں ہے۔ جدید طرزِ حکومت بذاتِ خود بیماری ہے اور اس کا علاج ہے خود قوم و ملت کو حکومت واپس کر دیا جانا، حکومت کو من مانی سے روکنا جس کے سبب ملک میں تباہی پھیلی ہے۔

بعض گمراہ مسلمان ان غلط نظریات کی خاص طور سے پریروی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سلم مسائل صرف مسلمانوں کو کسی سیاسی تحریک کے تحت منظم کر لینے اور حکومت پر تصرف حاصل کر لینے سے ختم ہو جائیں گے، لیکن بدقتی سے اس سے بھی مسائل حل نہ ہونگے جیسے کہ الجزائر میں ہوا۔ کیونکہ حکومت پر قابض افراد مسلمانوں کو کسی قیمت، پر یہ قبضہ نہیں دیں گے اور اگر وہ کسی ایک ملک میں حکومت پر قابض ہو بھی جاتے ہیں تو دوسرے تمام ممالک بشمول مغرب اس ملک کو تباہ کرنے کے کام مکمل کارروائیاں عمل میں لا بُرے گے جیسا کہ آج سوڈان میں کر رہے ہیں۔

مسئلہ کا اصل علاج ۱۹۱۶ء کا منصوبہ ہے۔

امام احمد رضا کا منصوبہ مسلم دنیا کے معاشی مسائل کے حل کا صاف راستہ ہوا کرتا ہے اور یہ ناکام حکومتی میڈیٹ کے پہلو پہلو مسلمان کو آزاد خود مختار مسلم معاشی مارکیٹ کی راہ دکھاتا ہے، انھیں روزگار اور دولت حاصل کرنے کے لئے اگر مسلمان حکومت سے منہ موڑ کر اپسی کاروبار اور ایک دوسرے کو روزگار کی فراہمی کے طریق پر عمل کرے تو واقعۃ یہ آزاد مارکیٹ وجود میں آتا۔ مسلمان حکومتی ملازمتوں اور کوائی کمیشن

کے چیزیں بھاگنے سے باز رہتے اور اسلامی بینک کاری نظام کے تحت حقیقی تجارت کو فرود دیتے۔ مسلمان خود عامۃ المسلمين کے کیرپرست قبل، کی رہنمائی کرتے اپنے ہی ملک میں اور مسلمانوں کو روزگار کے لئے دوسرے مالک خاص طور سے مغربی ملکوں میں ہجرت کر کے جانا پڑتا۔ جیسا آج کل ہو رہا ہے۔

اس آزاد مسلم میش کا کام ایک عظیم مسلم عوامی تحریک کا باعث ہو گا۔ یہ مسلمانوں کے خود اپنے عمل سے انجام پذیر ہو گا۔ اس کا مقصد ایک عظیم مارکیٹ سیکٹ کی تعمیر ہو گا جو محض دفاعی نہ ہو کر پوری دنیا میں معاشی مقابله آرائی کا فروغ ہو گا۔

عظیم اشان مسلم میش کا فروغ بلاشبہ مسلم اداروں اور شریعت کے فروغ کے دو شدید انجام دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو عزبت اور پریشا نیوں سے راحت دلانے والا ہو گا۔ مسلم عالمی اور وراثت کے قانون، خیراتی چندوں کا وقف کا نظام، زکوٰۃ خانقاہیں وغیرہ ایک فلاجی نظام فراہم کریں گی جہاں حکومت فیل ہو چکی ہے۔ یہ ایک غیر حکومتی اور خود کار تشکیل کردہ فلاجی اسٹیٹ ہو گی۔

۱۹۱۲ء کا یہ منصوبہ آج کی مغرب کی معاشی اور عاجی پالیسی کے مثال ہے جس کی یہ حمایت کرتے ہیں۔ وہ حکومت کے سماجی کردار کو سلیمانی کر خود مختار مارکیٹ سیکٹ اور خود کی مہیا کردہ معاشرتی حفاظتی نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح کی آزاد مارکیٹ کے فروغ پر چین میں بڑے پیچے پڑھنے ڈھنگ سے کام ہو رہے اور اگر وہاں یہ روایہ برقرار رہا تو چین کی میش متحده ریاست ہائے امریکہ کے سادوی ہو جائے گی۔

خود مختار مسلم فری مارکیٹ اس طرح کا میابی سے ہمکنار ہو سکتی تھی جس طرح چین نے کا میابی حاصل کی۔ اس سے عزبت اور بے روزگاری کو ختم کر جا سکتا تھا۔ اسکی خاص اہمیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان سب مسلمانوں کی پریشا نیوں کا خاتمه ہو گا۔ جنہیں مغربی مالک میں اور جن کے دوستوں کو مسلم دنیا میں روزگار فراہم کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے اگر ایک عظیم اشان مسلم میش کا وجود ہوتا اور کسی کو ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی اور فرض کیجئے کہ یہ ان سب مسلمانوں کے لئے زر کی فراہمی کا باعث ہوتا جو صدیوں سے لوٹے جا رہے

ہیں تو یہ عالم ہوتا۔ یہ مسلمانوں سے محبت کا زبردست غماز ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح امام

احمد رضا کو مسلمانوں سے محبت تھی جبکہ انہوں نے یہ منصوبہ مرتب فرمایا تھا۔

یہ خود منتظر آزاد مسلم مارکیٹ حقیقتہ مسلم معیشت کا ترقی پذیر سیکٹر ہوتا جو اسیٹ

سیکٹر سے اختیار و اپس لے لیتا۔ آج مغرب خود مسلم مالک کو مارکیٹ اصلاح کے

تحت لانے اور حکومت کی معاشی پالیسی کو سیکٹرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کی

اکثریت ۱۹۱۲ء کے منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسلم عوامی تحریک کو فردغ دیتی سماج

میں ایک خوشحال مسلم جزیرے کی تشکیل کے لئے تو آج ہم ایک کھلے ہوئے دروازے کو دھکا

دے رہے ہوتے۔

"یہ آزاد مارکٹ آرہا ہے شرط ہے اسے اسلامی بنانے کی لیقین دہانی کی۔"

پچھے لوگ اسلامی بنکاری نظام پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رقم صرف سے بازی کے

لئے پر استعمال کی جا رہی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ حکومتی کنٹرول معیشت میں آزاد بنکاری کا کوئی

روں نہیں ہے۔ حقیقتی اسلامی بنکاری نظام ہم صرف اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب ۱۹۱۲ء

کے منصوبے کو عمل میں لا جائے گا۔

۱۹۱۲ء منصوبہ مسلمانوں کو ایک روشن معاشی نظام فراہم کرتا ہے

۱۹۱۲ء کا منصوبہ حکومتی اختیار کو گھٹا کر اسے زیادہ ذمہ دار بنائے گا۔ اگر مسلم اکثریت

حکومت سے آزاد ہو کر خود اپنی زندگی بس کرے، حکومتی افسرشاہی خود ہی کمزور رہ جائے گی۔

اور رشوت خوری اور بد اطواری کے موقع کم سے کم تر ہو جائیں گے۔ سب سے اہم یہ کہ اگر مسلمان

علماء و اولیاء کی قیادت برقرار رکھتے ہوئے ایک عظیم دولت و اثردار قوم کو پروان چڑھاتے

تو حکومت کو کم اہم اور زیادہ ذمہ دار بنایا جائے۔ یہ کام صرف ذمہ دار از سلوک کرتیں۔ ضرورت

اس امر کی ہے کہ حکومت کو کم اہم اور زیادہ ذمہ دار بنایا جائے۔ یہ کام صرف ایک آزاد اور طاقتور

مسلم کمیونٹی ہی انجام دے سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اسلامی حکومت بھی غیر سودمند

ہوگی۔ اگر مسلمان اس پر اثر انداز ہو کر ذمہ دار نہیں بن سکتے۔ اس طاقت اور اختیار کے بغیر مسلم

جزیرہ یہاں تک کہ اسلامی ریاست بھی بد اطوار اور غیر ذمہ دار ہو جائے گی۔ یہیں یہ حقیقت

فراموش نہیں کرنے پا ہے کہ پہلے امرت ہے بھر حکومت۔ حکومت امت مسلم کی مدد کے لئے ہوتی ہے، اور اگر امت خود مختار و آزاد طاقتور اور معاشری طور پر خوشحال قوم نہیں ہے تو امت کیسی اور ایسی قوم کو ضرورت ۱۹۱۲ء کا منصوبہ ہی تشكیل کر سکتا ہے۔

**۱۹۱۲ء کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ حکومتی کنٹرول سے باہر ان تمام بے ہودد جنگروں کو ختم کرنے کا راستہ فراہم کرتا ہے جو مسلم دنیا کو سوں دار سے خوف زدہ کئے ہوئے ہے۔ اول:- جو معاشری اور سماجی تبدیلیاں اور پرپیشی کی گئیں حکومتی کنٹرول کی ضرورت کو کم کریں گی اور اس سے لڑیں گی۔ آج حکومتی اختیار کے بغیر بھی ایک کیونٹی کے کام کے موقع کو چیننا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آزاد معیشت کا وجود ہوتا جہاں کوئی بھی اپنی بخی تجارت چلا سکت تو سیاسی جدوجہد کی ضرورت نہ ہوتی۔**

دوسرा اور زیادہ اہمیت کا حائل نکتہ یہ ہے کہ ایک خود مختار معیشت اور معاشرتی فروع مسلمانوں کو حکومتی کنٹرول کی تلاش اور خود اپنی حکومت کی تشكیل کا مقابل فراہم کر سے گا۔ اس طرح کسی عوامی تحریک میں توانائی صنائع کئے بغیر حکومتی کنٹرول کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یعنی اگر مسلمان حکومت سے احتراز کرتے ہوئے خود اپنی خود مختار آزاد زندگی والی حکومت پایا ست کی تشكیل کریں۔ اور جب مسلم قومیت یورپی سے دولت و طاقت سے پر ہو کر تشكیل میں آتی تو حکومت جواب بھی وجود میں ہے اسی سیاست پر پایاں معاشری معاشرتی اور تہذیبی طاقت سے مغلوب ہوتی۔

**۱۹۱۲ء کا منصوبہ حقیقتہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ خود حکومت کو بھی راستہ فراہم کرتا ہے۔ الجزا اور دوسرے مکبوں میں مسلم دنیا میں حکومت اس بڑی طرح ناکام ہو چکی ہے کہ مستقبل صرف سوں دار محسوس ہوتا ہے جس میں حکومت کو دور بہت دور اٹھا پھینکنے کے لئے لاکھوں افراد قتل ہوں گے۔ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ اس سوں دار کا خاتمہ کرے گا ضرورت صرف اتنی ہے کہ حکومتی اختیار کم کر کے مسلمانوں کو اپنی بخی کیوں نہیں، تہذیب اور قیادت پروان چڑھانے کی اجازت دی جائے۔ مسلم دنیا میں حکومت مردہ اختیام کی حالت میں ہے۔ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ مسلمانوں اور حکومت دونوں کو ملنے کی ایک شاہراہ فراہم کرتا ہے۔**

بلاشبہ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ مسلمانوں سے سیاسی عمل چاہتا ہے لیکن یہ کوئی انقلابی طرز کا عمل نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کو اپنی حقیقی خود مختاری میں تھی اور اسلامی تہذیب والی علماء و اولیاء کی قیادت والی کمیونٹی کو پروان چڑھانے کے لئے سیاسی کام کرنا ہوگا۔

اس طرح کی انجام دی جانے والی سیاسی کارروائی الگ الگ ملک میں جدا گاہ نو عیت کی ہوگی اور ہر جگہ حکومت سے معاشری آزادی کی ضرورت ہوگی۔ اپنی تجارت کو چلانے کے لئے ساتھ ہی ساتھ آزادانہ اسکول، اسپتال اور فاہمی ادارے دغیرہ چلانے کی اجازت نیز شریعت پر عمل کرنے کی آزادی تاکہ اسلامی تہذیب و تعلیم کو پروان چڑھایا جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس طرح کے معاشرے میں علماء اور طریقت کے سلاسل کو اس سلم جزیرے کے قلب میں اپنا مقام مل جائے گا۔

اس کے لئے انقلابی اقدام کی نہیں آزادی برداشت و تحمل اور سکون کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لئے ایک عہدہ ریس ہو گا جو حکومت کی دہشت سے خوف زدہ ہے۔ قارئین سوال کر سکتے ہیں کہ ۱۹۱۲ء پر علدر آمد کس قدر دشوار کن ہو گا؟ اول اس دشواری کا پہمیانہ مختلف ملکوں میں مختلف ہو گا۔ بوسینا میں جہاں یہ آزادی پہنچے سے ہی موجود ہے وہاں یہ عمل کوشش بے صرف ہو گا۔ (اور واحد شوری ذریعہ ایسے ملک میں جو امید کن جد تک سفری امداد کا طالب ہے وہاں جا رہی ہے احتراز کرنا چاہئے) دو م:- ابتدا میں زیادہ دشواری ہو گی۔ ایک بار کامل اختیار کو اقتدار والی حکومتوں کا تعاقب کیا جائے راحت پانے کی خاطر تو جلد ہی ایک بڑی کامیابی حاصل ہو گی۔ بالخصوص معاشری طور پر اور جلد ہی مسلمانوں کے اندر اپنی آزادی کی خوشی منانے کا زبردست جوش پیدا ہو جائے گا۔

اور سوم یہ کہ مسلمان یقیناً ۱۹۱۲ء منصوبہ پر پہنچے سے ہی عمل پیرا ہیں جبکہ انہوں نے اسے سنا بھی نہیں ہے۔ بہت سے مسلم ممالک میں قویت کے فروغ کی عوامی تحریک حکومت سے کسی مدد کے انتظار داہید کے بغیر جاری ہے۔ اس طرح صریح مسلم سماجی خدمت کے فروغ کی ٹھیک ٹھیک بڑی تحریک جاری ہے کیونکہ حکومت نہیں ہو چکی ہے اور اگر مسلم حکومت سے کسی مدد کا انتظار کرتے ہیں تو انہیں ہمیشہ کے لئے انتظار کرنا پڑے گا۔ اسلامی بینلگ کی ایک

لبی تاریخ ہے۔ بہت سے مسلم ملکوں میں تعلیم اسلامی کی تجدید شروع ہے اور ایسے علماء کی تربیت کی کوشش ہو رہی ہے جو حقیقتہ قومی رہنمائی کر سکیں۔ ہر جگہ بڑے پیمانے پر سلسلہ طریقہ کا بھی اجیاد ہو رہا ہے، مگر اسکیور مسلمانوں کی نفرت اور اذیت رسانی کے باوجود ہمیں جو کچھ کرنا ہے شعور و فکر کے ساتھ کرنا ہے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اہم ہے کہ کمیونٹی کا فرد غیر جائز مقصد کے لئے ہی کیا جائے۔ کچھ مسلم ممالک میں اسپتاں لوں اور اسکو لوں کی تعمیر کمیونٹی کے فروغ کے لئے نہ کر کے کسی مسلم جماعت یا خاص فرقہ کی عوامی حمایت کے لئے تعمیر کی جا رہی ہیں۔ حکومت اس طرح کی کمیونٹی فروغ کی راہ میں حائل ہو گی جو انقلاب کا ایک واسطہ یا گزر چھڑ رہے۔ بات ہے ۱۹۷۴ء کے منصوبہ پر عمل کرنے کی نہ کہ اس طرح کی لفڑ آنے والے کسی لوار منصوبہ پر جو کہ اصلاحیت میں اس سے مختلف ہے۔

اور یقیناً اگر مختلف ممالک میں ۱۹۷۴ء کے منصوبہ پر عمل درآمد کیا جائے تو اتحاد امت نشوونما پائے گا۔ مسلم حکومتوں میں علماء کی آپسی یہودہ رقبات اس اتحاد کو کمزور کرتی ہے۔ اگر ۱۹۷۴ء منصوبہ فرقہ داریت اور قومی عصیت کو کم کرتی ہے جنہیں حکومت نے جنم دیا ہے تو تمامی مسلم ملکوں میں حل کر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آزاد معیشت مسلمانوں کے اتحاد میں اپنے کرے گا۔ تجارتی پابندیاں قومی تسفر برداشتی ہیں۔ تمام مسلم ممالک میں مسلمانوں کے مابین آزادانہ تجارت کو عالم اسلام کے اتحاد کی بنیاد ہونا چاہئے۔ ابیدافرا معاشرتی نرqi مسلمانوں کی ضرورت بھرت کو کم کرے گی۔ کیونکہ عزت کے سبب مسلمان ایسا کرتے ہیں جیسے کہ بیگنگ دلیش میں۔ بیک وقت آزاد تجارت کا یہوں اور تاجر ہوں کو آزادی کی تحریک کاراسٹہ دکھائے گا تاکہ کہر مسلم پوری امرت کو اپنا ملک تسلیم کر سکے نہ کہ ایک چھوٹی سی ریاست جہاں دررے مسلمان باہر کر دئے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اجنبیوں کا ساسلوک ہوتا ہے۔

آنچ مسلم ریاستیں کمزور ہیں۔ اور وہ مثال کے طور پر بوسنیا کے لئے کچھ نہیں کر سکتیں ۱۹۷۴ء کا منصوبہ انھیں میں الاقوامی سطح پر ان ریاستوں کو طاقتور بنائے گانہ کہ کمزور۔ آج ان میں بہت سی ریاستیں اپنے ہی لوگوں سے جنگ کر رہی ہیں۔ اس طرح کی ریاستیں دنیا میں اپنا کوئی اثر نہیں قائم کر سکتیں۔ ان ریاستوں کا اسلام اور مسلمانوں سے قطعاً کوئی تعلق

بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان ملکوں میں ایک مفہوم مسلم کیونٹی موجود ہوتی تو بوسینا کے لئے اصلاحت میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے اثر ڈالتی۔ بغیر معاشری کامیابی کے حکومت طاقت و رہنمائی ہو سکتی حکومت کی چلانی کی میش اس بری طرح ناکام ہے کہ یہ ریاستیں آج بھی آئی، ایم، ایف، انٹرنسینل منی قنڈ) اور مغربی حکومتوں سے مالی امداد کی بھیک چاہ رہی ہیں۔ ان کی ٹیکس آمدی بہت ہی معمولی ہے کیونکہ ان کی میش ناکام ہے۔ ۱۹۱۲ء کے منصوبہ کا عطا کردہ خود محنتار اور آزاد مارکیٹ کا نظر پہ انھیں معاشری کامیابی عطا کرے گا، اور آئی، ایم، ایف کے سامنے خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کی اپنی ٹیکس آمدی ہو گی جو ان کو طاقت میں اضافہ کرے گی۔ ان سب طریقوں سے یہ ریاستیں دنیا میں مسلمانوں کے لئے کچھ کرنے کے لائق ہو سکیں گی۔ انشاء اللہ پھر کوئی دوسرا بوسینا وقوع پذیر نہیں ہو گا۔ اگر ۱۹۱۲ء کے منصوبے پر عمل کیا جاتا ہے تو!

امام احمد رضا کس قدر غیر معمولی ذہن تھے۔ اس منصوبے کو لائق عمل بنانے کے سلسلے میں ہم نے گوشتہ مقالات میں مختلف طریقوں سے خاکے پیش کئے ہیں۔ کسی خاص ملک میں اس منصوبے پر عمل کرنے کے لئے اس ملک کے بارے میں خصوصی واقفیت کی ضرورت ہو گی۔ ۱۹۱۲ء منصوبہ فکر و عمل کا رہنا ہے زکر ان کا مستبارل۔ یہ حقیقتہ تمام عالم اسلام کے لئے ایک صحیح راستہ ہے یہ ساری دنیا اور دنیاۓ مسلم و غیر مسلم دونوں کے لئے درست ہے۔ کیوں کہ دونوں نے کیونٹی کے سامنے حکومت کو پیش کرنے کا مصیبہ نہیز راستہ اپنایا ہے۔ آج ہر جگہ حکومتی پالیسی ناکام ہے۔ اور راستہ صرف یہی ہے کہ حکومت سے احتراز کر کے حقیقی، آزادانہ خوشحال اور مہذب کیونٹی کو یہاں چڑھایا جائے۔

۱۹۱۲ء کا منصوبہ صرف مسلم اکثریتی ممالک کے لئے ہی اہم نہیں ہے بلکہ برطانیہ میں ہم مسلمانوں کی نسبت ان مسلمانوں کے لئے زیادہ اہم ہے کہ عالم اسلام میں جو حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ ان کی حالات برطانیہ سے زیادہ بڑی ہے۔

حقیقتہ امام احمد رضا کا ۱۹۱۲ء کا منصوبہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے لئے واحد منصوبہ ہے۔ یہی کبھی نہیں بھونا چاہئے کہ حقیقتہ اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا مقصد پوری انسانیت کو اسلام کی طرف بلانا ہے جحضوری کریم علیہ السلام اور اللہ عز وجل سے محبت اور جنت کی خاطر!

## منصوبہ رضا پر عمل کے لئے سیاسی سرگرمی

امام احمد رضا کا ۱۹۱۲ء کا چار نکاتی پروگرام بنیادی طور پر سیاسی نہیں ہے بلکہ مقصد ہے ایک آزاد جزیرے کی حیثیت سے مسلم کمیونٹی کی تعمیر اور اس کے لئے مذہبی سرگرمیوں کے لئے عمل پیرا ہونا چاہئے۔ معاشی، سماجی اور سنجی و سیاسی قسم کی سرگرمیوں پر یہ مرتكز نہیں ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کے لئے ضروری ہے کہ کمیونٹی ہر طرح سے خود مختار و آزاد ہو۔ جب کمیونٹی خود مختار ہوگی تب ہی سیاسی سرگرمی کا رگر ہو سکتی ہے۔ اور اس سیاسی سرگرمی سے معاشی و سماجی آزادی کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔ آج کی دنیا میں حکومت سماج اور معاشیات کے تمام شعبوں پر حادی ہے اور حکومت کو جب تک مجبور نہیں کیا جائے گا سماجی، معاشی و تہذیبی شعبہ ہانے زندگی کے ساتھ آزادی کے ساتھ نہیں رہا جاسکتا۔ امام احمد رضا کے ۱۹۱۲ء کے چار نکاتی پروگرام کو عمل میں لانے کے لئے مسلمانوں کو حکومت سے آزادی ضروری ہے مسلمانوں کو کسی اور طرح سے آزادی کے لئے سیاسی طور پر خود مختار رہنا ضروری ہے اس سیاسی آزادی و خود مختاری کے تین پہلو ہیں۔ اولاً مسلم کمیونٹی کی عام آزادی اور خود مختاری یعنی حکومت کی دخل اندازی کے بغیر کمیونٹی اس لائق ہو سکے کہ وہ اپنی آزاد زندگی کے لئے قومی تنظیم کر سکے۔ مسلمانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی تقریبی و تحریری آزادی ہو۔ کیونکہ اس آزادی کے بغیر آزاد از زندگی بس نہیں کی جاسکتی۔ آج کچھ ممالک میں حکومت کی طرف سے کسی بھی دینی اسلامی نژاد پر سخت پابندی ہے۔ یہاں تک کہ مساجد میں بھی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اپنے سماجی ادارے مثلاً اسکول، ہسپتال، خانقاہ وغیرہ کے قیام کی آزادی ہونی چاہئے کچھ مسلم ممالک میں بھی اس طرح کے اداروں کے قیام کی

آزادی نہیں ہے بلکہ حکومت اس طرح کے ادارے خود چلاتی ہے۔ حقیقی سیاسی آزادی کا مطلب ہے کیونٹھی کو اپنے قائدین کے انتخاب کی خود مختاری۔ مسلم کیونٹھی میں حکومت کے ذریعے مقرر کردہ اہم ترین عہدیداران کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے بھیثیت مسلمان رہنے کی آزادی بھی ہونی چاہئے۔ اور انھیں غیر اسلامی تہذیب و قوانین کو جبراً اپنائے رکھنے کے بجائے شریعت پر عمل کرنے کی آزادی ملنی چاہئے اور اپنے معاملات و آپسی مقدمات شریعت کی روشنی میں باہم فیصل کرنے کی آزادی بھی چاہئے۔ مسلمانوں کو اپنی تجارت کی آزادی چاہئے نہ کہ جبراً حکومتی کارخانوں میں کام کرنے کی پابندی۔ انھیں کسی بھی مقام پر رہنے کی آزادی بھی چاہئے۔ لیکن بہت سے ملکوں میں اس طرح کی آزادی پر بھی پابندی ہے۔ ایک شخص حکومت کی اجازت کے بغیر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جا سکتا اور ایسی حالت میں مسلم کیونٹھی کا وجود ہماں برقرار رہ جاتا ہے جبکہ وہ وہاں نہیں رہ سکت جہاں اس کے دوسرے مسلم برادران و رفقاء ہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں آزادا نہ آنے جانے کی اجازت بھی ہونی چاہئے کہ ہر سلم امت سلمہ کا ایک رکن ہے کسی حکومت کا قیدی نہیں۔ آجکلی جدید دنیا میں بھرت کی یہ آزادی دن کے خواب کی مانند نامکن ہے۔ البتہ قرون وسطی میں یہ ضرور ممکن تھا۔ ان تمام امور پر ۱۹۱۲ء کا منصوبہ عام آزادی اور حکومت سے خود مختاری کا مطلب رہ کرتا ہے۔

**دوہم:** اس آزادی و خود مختاری کا مطلب ہے باتفاق اور قطعی آزادی، مشلاً اگر مسلمان آزاد معاشرت کے قابل ہیں تو ہر مسلمان کو اپنی تجارت کی ہر طور سے آزادی ہونی چاہئے۔ بلا شرکتِ غیر حق تجارت، وسیع پیمانے پر قائم کردہ حکومتی پابندیوں کا خاتمه اور ذاتی طور پر معاشری علاقہ کی تشکیل جہاں مسلمان آزاد تجارت کر سکیں اسلامی بنیگنگ کی آزادی پر حکومتی قانونی پابندیاں اور مرکزی بنیکوں کی کارروائی عائد کردی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو مالی معاملات جیسے شادی، طلاق، خاندانی اموال اور بحکم وغیرہ میں

شرایعت کی رو سے عمل در آمد کی آزادی ملنی چاہئے۔ برطانیہ میں حکومتی شہری قانون کی رو سے مساجد کے قیام کے لئے بھی سخت مشکل ہے۔ ۱۹۱۲ء مخصوصاً اس طرح کی آزادی کی مشکلات کو نظر انداز کر کے سلسلہ کو سلب جھاتا ہے۔

سوم:۔ اس آزادی اور خود مختاری کا مطلب ہے مسائل کے حل کے لئے حکومت کے پیچھے بھاگنے سے احتراز۔ بہت سے مسلمان سوچتے ہیں کہ تعمیر سجدہ کے لئے رقم کی فراہمی کی خاطر حکومت کے پیچھے بھاگنا چاہئے۔ بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بروزگار مسلمانوں کے روزگار کے لئے سیاست والوں کے پیچھے بھاگنا چاہئے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان کو سیاسی طور پر اہمیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے انھیں یہ رہنمائی سول سرسوں، مقامی یا مرکزی حکومت اور کابینہ میں وہ مقام حاصل کرنا ہو گا۔ ۱۹۱۲ء مخصوصاً اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے مطابق مسلمانوں کو حکومت کو نظر انداز کر کے، اپنی رقم سے سجدہ کی تعمیر کرنی چاہئے۔ اپنی تجارت چلانی چاہئے اور اپنی مسلم کمیونٹی کی طاقت اور وزن سے گورنمنٹ پر اثر انداز ہونا چاہئے نہ کہ چند لوگوں کا فرماناج میں عہد و منصب حاصل کر لینا۔ اس آزادی کا مطلب ہے حکومتی امداد و اس کے ذریعہ جل کئے جانے والے معاملات کا انکار! مسلمانوں کو حکومت سے قطع نظر کر کے علماء، وادیا، اکی قیادت والی پُر اعتماد کمیونٹی کی تشکیل کرنی چاہئے۔

مسلمانوں کی تمام سیاسی جدوجہد کا مقصد سیاسی آزادی اور خود مختار کمیونٹی کا قیام ہونا چاہئے تاکہ ۱۹۱۲ء مخصوصاً ملک ممکن العمل ہو سکے۔

آج برطانیہ میں اس طرح کی آزادی بیشتر مسلمانوں کو سیسرہ ہے اور ۱۹۱۲ء کے منصوبے کو لاٹ عمل بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم وہاں ایک مضبوط روادار حکومت میں رہتے ہیں۔ ہمیں وہاں اس موجودہ آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس خاص قسم کی آزادی کے لئے مزید سرگرم عمل رہنا چاہئے جو ابھی ہمیں سیسرہ نہیں ہے۔

اس طرح کی آزادی بیشتر مسلم مالک میں مفقود ہے اور وہاں ایک آزاد مسلم کمیونٹی کی تشکیل کی ابتدا کے لئے بڑے پیمانے پر سیاسی سرگرمی کی ضرورت ہے۔

اس منصوبے کو لائق عمل بنانے کے لئے سیاسی طریقوں کے استعمال کی تعریف آسان ہے اور وہ کوئی بھی تدبیر ہو سکتی ہیں کہ جن کے توسط سے صحیح معنی میں حکومت سے آزادی حاصل ہو سکے۔ بلاشبہ الگ الگ ملکوں میں سیاسی سرگرمیاں جدا گانہ نوعیات کی ہوں گی۔ اور زیادہ بہتر اس ملک کا باشندہ ہی جان سکتا ہے کہ اس منصوبہ پر عملدرآمد کرنے کے لئے کس طرح کی سیاسی سرگرمی کی ضرورت ہو گی۔ لہذا اس کے لئے گھرے مطالعے اور بصیرت کی ضرورت ہے کہ کسی خاص ملک میں کس طریقہ سے مقصد حاصل کیا جائے۔ لیکن جیسا کہا گیا کوئی بھم، ترکیب جو قابل قبول ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ مرتب شدہ دیسیں سیاسی ترکیب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا جن پر وہ آج عمل پیرا ہیں کیونکہ وہ ۱۹۴۷ء کے منصوبے کے بالکل ضد ہیں۔

برطانیہ میں بہت سے مسلمان نسلی رشتہ کی استواری میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ اس کو شریش میں کہ حکومت گوروں کو کالوں (مسلمانوں) کے روزگار کے لئے مجبور کر کے اسے متحده ریاست ہائے امریکہ میں ایجادی (اقراری) طریقہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلم کیونٹی کی تعمیر کا طریقہ نہ ہو کر کافر سماج میں حصول روزگار کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ قطعاً ناکام ہے۔ مسلمان اس سے کچھ نہیں پار ہے ہیں۔ اس امر میں وہی لوگ اپنی حالت میں ہیں جو نسلی استواری رقومی یا یک جماعتی کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس پالیسی کو ترک کر دینا چاہئے۔ انھیں خود پر بھروسہ کرنا چاہئے اور حکومت سے صرف اسی رقم کا مطالبہ کرنا چاہئے جو ہر شہری کا مساوی حق ہے۔ جیسے کہ ہر بچے کو مفت تعلیم کے لئے حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم یا بڑھاپے کی پیشون کے طور پر دیا جانے والا روپیہ۔ حالانکہ یہ روپیہ بھی مسلمانوں سے نفرت کا سبب بنتا ہے۔ حکومت سے ہر طرح کی زائد امداد کی طلب اور بھی وحکاکہ غیر ہے۔ اگر مسلمان خود پر بھروسہ رکھتے ہوئے تجارت کو فروغ دیتے تو شاید چند ہی لوگ بے روزگار ہوتے۔ اور ان لوگوں کے تنفس میں کمی آتی جو اس خیرات کے حصول کو جسم

سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے نسلی رشتہ کی استواری کے لئے صرف اس حد تک کام کرنا چاہئے جس سے جبکہ شکار مسلمانوں کا تحفظ ہو سکے۔

بہت سے لوگ اسلامی انقلاب اور اقتدار پر قبضہ کی خاطر کیونٹ یافہ الی پارٹیوں کے نمونے پر سیاسی سرگرمی کی تنظیم کی کوشش میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں پہ کوشش دن میں خواب دیکھنے کی مانند ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو (مسلم کیونٹ کو) بھاری مشکلات میں مبتلا کرتی ہے۔ ۱۹۱۲ء منصوبہ برطانیہ میں آزاد سیاسی کیونٹ کی راست قائمی کی تلاش تو کرتا ہے مگر حکومت میں حکومت کی راست قائمی تلاش نہیں کرتا۔ اس کا مقصد ہے ایک پر امن اسلامی زندگی نہ کہ حکومت کو چیلنج بلکہ حکومت سے دھیان ہٹانا اور حکومت کرنے والوں کی پالیسی سے خود کو دور ہٹانا۔ مقصد ہے کیونٹ کی معیشت اور معاشرہ کو اس طریقہ سے منظم کرنے کی تاکہ حکومت سے کسی امداد کی ضرورت نہ پڑے۔

حزب التحریر جیسے سلم گروپ اس بات کو بالکل صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ انکا مقصد حکومت کے اندر حکومت کی راست قائمی ہے اور اگر ممکن ہو سکے تو اسے ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ دوسرے سلم گروپ مسلمانوں کے ایک بڑے دباؤ ڈالنے والے گروپ کی تنظیم کے خواہاں میں تاکہ مسلمانوں کے اجتماعی عمل سے حکومت سے رعایت پانے اور برطانوی سماج میں اوپنچا منصب حاصل کرنے کیلئے حکومت پر زور ڈال سکیں۔ یہ بہت دھماکہ خیز ہے۔ گزشتہ مقاومت میں تحریر کیا گی کہ اگر فرقہ واریت اور نسلی عصیت مانع نہیں ہوتی ہیں تو برطانیہ میں سو برس کے اندر مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے۔ اگر آج برطانیہ میں دس لاکھ مسلمان میں تو ہر بیس سال میں یہ دگنے ہو جاتے ہیں تو سو برس میں ان کی تعداد تین کروڑ میں لاکھ ہو جائے گی لیکن اگر کیونٹ پر حزب التحریر جیسے لوگوں کی گرفت رہتی ہے تو برطانیوں کے لئے یہ اس قدر ہتک آیزدست اندازی ہو گی کہ وہ پوری کیونٹ کو ملک پدر کر کے یا کسی دوسرے طریقے سے بر باد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سیاست خطرناک ہے اور اسے ترک کر دینا

ہے۔ مسلم دنیا میں اسلامی انقلاب کی اس طرح کی کوشش بالکل ناکام ہو چکی ہے  
ورہزادوں نہیں سیکڑوں مردہ ہو چکے ہیں۔ ۱۹۷۴ء کا منصوبہ مسلم دنیا میں مسلمانوں  
کے ہزاروں کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے جو خود اپنے ہی حکمرانوں کے پھندے  
کے لئے چھانس لئے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا حکومت سے احتراز اور اس سے علیحدہ ایک  
زاد زندگی ہی اس سیاست کے مقاصد ہیں۔ اس لئے مسلم دنیا میں حکومت کو اکھاڑ  
جھینکنے کی جہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بوسینا اور کشمیر جیسے مقامات میں لائق عمل نہیں  
جہاں مسلمان اجتماعی قشلاق سے دو چار ہیں۔ مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لئے  
ناچاہئے نہ کر مرنے کے لئے۔ لیکن خوش قسمتی سے مسلم دنیا میں حکومتوں کی بڑی اکثریت  
نہیں بدتر نہیں ہے جتنی سربیا میں۔ اس لئے مسلمان موجودہ حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں  
اور انھیں صرف آزاد اسلامی زندگی کے حصوں کے لئے کام کرنا چاہئے۔ جیسا کہ میں نے  
از شتر مقالہ میں اشارہ کیا ہے یہ خود حکومتوں کے لئے قسمتی راستہ ہموار کر سکتا ہے۔  
ہم یہ اتفاقہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بھی سیاسی تدبیر جو کارگر ہو  
کرنی چاہئے۔ لیکن ایسی تدبیر جو خطہ پیدا کرنے والی ہوں ان سے احتراز کرنا چاہئے یا  
جو آزادی اور خود محنتواری سے دور کر دے۔

حقیقتہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے مسلم دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقہ میں  
سیاست میں اندر دنی کام کے لئے گمراہ مطالعہ۔ مسلم دنیا کی شاہی اور مطلق الغنان  
بہر دپ والی حکومتوں میں حصول ترقی کی راہ میں ہمیں گہری بصیرت والے لوگوں کی فروخت  
ہے۔ جیسے کہ وہ لوگ فرانس یا جمنی یا متحده ریاست ہائے امریکہ کے سیاسی نظام میں  
حصول کامیابی کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ مطالعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو آزاد کر دیا جائے  
ہمارا قاری اب پوچھ سکتا ہے کہ ضروری سیاسی سہ گرمیوں میں کون شرکیں  
ہے۔ جواب آسان ہے کہ ہر مسلم اور مسلمہ اپنے ایک خاص انداز میں شرکیں ہے۔  
۱۹۷۴ء منصوبہ ہر مسلم کی تحریک ہے اور یہ سیاست میں بھی اتنا ہی قابل اطلاق ہے  
جتنا دوسرا چہلوؤں میں۔

۵۰

اس بات کی کوئی تخصیص نہیں کہ مسلمان کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں یا وہ کتنے اہم ہیں، وہ سیاسی عمل کر سکتے ہیں۔

مسلمان ووٹ دے سکتے ہیں۔ مختلف مسائل پر اخبارات کو خطوط لکھ سکتے ہیں، اس منصوبے کے کسی ادنیٰ یا اہم پہلو پر مدد کے سلسلے میں مقامی کونسلر یا ایم. پی سے شکایت کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ یا سیاست میں شامل مسلمان اس سلسلے میں خاص طور سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ مسلمانوں کو حکومت سے آزادی دلانے کے حکومت کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں بلکہ مسلم مفاد میں گورنمنٹ یا سیاست میں خاص اپنی پوزیشن کا استعمال کریں۔ مسلح افواج یادتے سیاست، حکومت یا انتظامیہ میں شامل مسلمان اس منصوبے کے سلسلے میں خصوصیت سے مدد اور مشورہ دے سکتے ہیں اور اپنی دوستی اور روابط کا نت ورک استعمال کر سکتے ہیں۔

لیبر پارٹی یا البرڈیو کریٹک پارٹی میں شامل مسلمان حکومت سے سلم آزادی کے لئے اپنے رسوخ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو تعمیر مسجد کی اجازت دلائیں یا اسی طرح کے کسی اور معمولی کام میں مدد کر کے۔

لیکن سیاست کی ابتداء لاکھوں سے ہوتی ہے۔ اس آزادی کے حصول اور تحفظ کے لئے جو چیز اصلاحیت میں سیاست میں شمار کی جائے گی وہ ہے عامۃ المسلمين کی لاکھوں کی تعداد۔ اگر لاکھوں عام مسلمان اس ۱۹۴۲ء منصوبے کو چلانے میں مدد کریں تو وہ حکومت کو جائز کام کرنے میں اثر انداز کرنے کی خاطرا صلح طاقت فراہم کریں گے۔ اور بلاشبہ یہ مکمل قوتِ حیات ہے کہ مسلم قیادت علماء و اولیاء کے ہاتھوں میں دی جائے لیکن یہ فوراً ممکن نہیں۔ دوسرے مسلمانوں کو گزرتے ہوئے وقت کے بحث اسے ممکن بنانے کے لئے عمل کرنا چاہئے۔ سئلہ ہے ان مقامات پر مناسب علماء کی کمی کا جہاں وہ برسوں سے دبادے گئے ہیں اور علم دین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مسلم دنیا کی بہت سی ریاستوں میں علماء اور ان کی تربیت پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔ حکومتی پابندی سے آزاد اور عصر جدید میں واقعتہ صحیح مسلم رہنمائی کرنے والے قابل علماء تیار کرنے

میں پرسوں لگیں گے۔ اور بہت سے مسلم ممالک میں اولیاً کو دبا کر رکھ دیا گیا ہے۔ بلاشبہ عوام کی حمایت سے علماء اور اولیاً کو ہی کو مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہئے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان حضرات کو عوامی حمایت، احترام حاصل کرنے میں سخت مخت کرنی ہوگی لیکن یہ سب سے بڑی دشواری نہیں ہے۔ ہر معاشرہ میں حکومت پر بھروسے کی پوری روایت اور اسی کے اگلے اقدام کا انتظار کرنا تو آسان ہے لیکن جب ۱۹۴۲ء مخصوصہ عمل میں لا یا جائے گا تو دشواری پیدا ہوگی۔ لیکن یہ منصوبہ کسی اور متبادل منصوبہ سے آسان تر ہے۔ مسلم، غیر مسلم اور حکومت کے لئے کیونکہ دوسرے متبادل ناکام ہو چکے ہیں۔

اب رہایہ سوال کہ یہ سیاست کب تک بروئے کار لائی جاتی رہے گی تو جواب ہے کہ جب تک حکومت سے آزادی اور خود مختاری حاصل نہ ہو جائے اور پالیسی وہی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج برطانیہ میں ضروری بینادی آزادی میسر ہے۔ بہت سے ملکوں میں اس سیاست کو قابل غور بنانے ہی میں دہائیں لگ سکتی ہیں۔ اس لئے کہ انتظار کیا جائے کہ باڈشاہ یا مطلق الغنان حکمران کب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن آج یہ حکومتیں اس طرح ناکام ہو چکی ہیں کہ وقت اس ۱۹۴۲ء مخصوصہ کی حمایت میں ہے۔

لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک حکومت برقرار رہے مسلمانوں کو خود تحفظ کرنا چاہئے۔ ۱۹۴۲ء مخصوصہ کا پہلا عملی قدم ہو گا حکومت کو عوام سے بہتر برداشت کیلئے ذمہ دار بنانا۔ کیونکہ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس پر ذمہ دار از حکومت کی جائے۔ یہ زیاد خلک کی بات نہیں کہ مسلمان کس حد تک آزاد ہیں، یہ آزادی کبھی بھی لی جا سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو حکمران کی مخالفت میں رہتے ہوئے خود کو حفاظتی اپریشن میں رکھنا چاہئے یہ کہاوت اب بھی سچ ہے کہ آزادی کی قیمت دائمی مغربی داری ہے۔

لیکن بے شک جیسے جسامت، قوت اور خوش حالی میں خود مختار کیونکی تشکیل پاتی ہے ہمیشہ اس کی آزادی کا حصول مشکل تر ہو جائے گا۔ لیکن یہیں یہ بھی نہ فراموش کرنا

چاہئے کہ مغرب کی آمد سے قبل مسلمان یہ آزادی رکھتے تھے۔ اور جب بھی ان کے آزادی چھیسنے کئی کمال اتنا ترک چیزے مسلمان ہی کے ذریعے چھیسنے کئی جس نے علماء اولیا اور شریعت کو تباہ کیا۔

ماضی کے پاس کئی سبق ہیں اور ہمیں یہ دیکھنے کے لئے کہ مااضی میں ۱۹۱۲ء مصوبہ ہی کے قسم کے مصوبے کس طرح عمل میں لائے گئے تھے، مسلم تاریخ کا مطابق نہ کرنا ہو گا مثلاً سلسلہ نقش بندی کو ہمیشہ سے غلبہ اسلام اور مسلم کمیونٹی کو خود مختاری دلانے میں تحفظ حاصل رہتا۔

اگر یہاں پر بتائے ہوئے طریقوں پر ۱۹۱۲ء مصوبہ عمل میں لا یا گیا ہوتا تو مسلم دنیا میں ایک نئے طرز کی حکومت وجود میں آتی۔ آج کی مسلم دنیا کی سیاست خوفناک اور خوف زدہ کرنے والی ہے۔ ہماری سیاست کے مقاصد اور تمددا بیر عالم طور پر کیونز نہ فطریت اور نازی ازم کی نفاذی ہے۔ حکمران اور اسلامی کہی جانے والی سیاست دونوں خوف زدہ ہیں۔ مسلم دنیا میں بذات خود بہت سے خوف ہیں لیکن اس وجہ سے کہ اسلامی سیاست کی بگ ڈور ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے جو سیاست سے بالکل نا بلد ہیں ۱۹۱۲ء مصوبہ کی چاہی سیاست اس خوفزدگی کو غتم کر دے گی۔ اس کا مقصد خود مختاری ہے نہ کہ اقتدار۔ مقصد ہے اسٹیٹ اور اس کے اختیار کو کم سے کم اور محدود کر دینا۔ یعنی مقصد ہے پولیس اور خفیہ پولیس سے اختیار والپس لے کر مسلمانوں کو آزادی و خود مختاری دلانا۔ اس سیاست کا انحصار اس پر ہے کہ کیا حاصل کر پانا ممکن ہے نہ کہ اس پر کہنا ممکن خوابوں کے پیچے بھاگ کر لاکھوں جانوں کی قیمت ادا کی جائے یہ سیاست مسلم دنیا میں موجودہ نظام کو تسلیم کرنے ہوئے اس صلح پر منحصر ہے کہ ان سے سماج کو آزادی دینے کے لئے کہا جائے جبکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ یہ سیاست مسلمین اور غیر مسلمین کے درمیان پُرانی زندگی گزارتے ہوئے ایک مسلک، الحصوص جماعتیں پر منحصر ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اپنے لئے حکومت کے اختیار سے دولت اور اقتدار کے استعمال کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔

یہ سیاست مسلمانوں کی محبت اور کیونٹی کی نگرانی اور پرواہ داری پر مختصر ہے۔ کیونٹی کو خطرے میں ڈال کر ایک سیاست راں کا اپنے کیرر کو کامیاب بنانے والی پرخطر اور جو کھم سیاست کی بہ نسبت امام احمد رضا کے نقطہ نظر میں کوئی بھی شے بدتر نہیں ہے۔ پوری ہندی سلمم کیونٹی کو خطرے میں ڈالنے والی اس جو کھم سیاست پر امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں بھی نکتہ چینی کی تھی۔

مغرب کی آمد سے قبل اس طرح کی پر امن اور ہم آہنگی والی سیاست صدیوں سے سلطنت عثمانیہ و سلطنت مغلیہ میں موجود تھی جس نے بے پایاں طاقتوڑ اور شاندار تہذیب کو ممکن بنایا تھا۔

اگر امام احمد رضا کے ۱۹۱۲ء کے منصوبے والی سیاست ہی مسلم دنیا کی سیاست ہوتی تو پوری مسلم دنیا راحت کی سانس لیتی۔ پوری مسلم دنیا کو اس نئی سیاست کی فوری ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ حقیقتہ مسلمانوں میں نئی ایسا لاسکتا تھا۔ پرانی سیاست مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے بے شک بہت سے مسلمین اس منصوبہ پر عمل پیرا ہیں۔ دوسری تمام تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں اور صرف یہی سیاست مسلم کیونٹی کے فروغ میں مدد بھی پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ اگر یہ سیاست قصد و شعور کے ساتھ خاص طور سے عمل میں لاٹی جاتی تو ایک بڑا فرق قائم ہو جاتا گیونکہ دوسری سیاسی سرگرمیاں مسلمانوں کے لئے اس قدر غلطناک ہیں کہ ان سے چھکا کارا پانا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی جگہ پر اصل سیاست کو برداشت کا رလایا جائے۔

امام احمد رضا نے اس منصوبہ کو ۱۹۰۸ سال قبل تجویز فرمایا تھا۔ یہ ان کے بے انتہا ذہانت کی پہچان ہے کہ آج یہ منصوبہ مسلم سائل کے حل کی کلید بن سکتا ہے۔ اور یہ اسلام کی حقیقت کی صرف ایک علامت ہے اور امام احمد رضا نے جو کچھ کیا اس کی اساس بنی کونین حصلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں عشق تھا۔

ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی پر ہدایت اور کامیابی کی دعا کرنی چاہئے۔

## امام احمد رضا خاں بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ۱۹۷۴ء کے چار نکاتی پروگرام میں مذہب کا مقام

گزشتہ مقالہ میں ہم نے اس پروگرام کے سیاسی، سماجی اور معاشی پہلو پر خاص طور سے توجہ مرکوز رکھی ہے۔ اور اس کے مذہبی پہلو کو صرف مس کیا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کے منصوبہ میں یہی مذہبی پہلو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس مقالہ کا مقصد یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ پہلو اس منصوبے میں کس طرح مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور مذہب کی یہی مرکزی اہمیت میں اور تمام انسانیت کے لئے کس قدر غلطتوں کی حامل ہے۔

امام احمد رضا نے خود فرمایا ہے کہ اس منصوبہ کا مرکزی اور اہم ترین اصول اسلام میں حقیقی عقیدہ اور کامل یقین رکھتا ہے۔ ہمارے اگلوں نے مذہب کو اولیت دینے کی وجہ سے وقار و کامرانی حاصل کی تھی اور آج ہمارے زوال کا سبب اسی مذہب اسلام سے بیزاری اور دوری ہے۔ یہ دین ہی تھا جس نے مسلمانوں کو قابل تعریف اور لائق حکومت بنادیا تھا۔ لہذا یہی مذہب سے وابستگی کا چوتھا نکتہ رضا کے منصوبہ میں سب سے اہم تھا۔ جو حقیقتہ علم دین اور سنت کی ترویج و اشاعت اور ان کی تجدید تھی۔ دین اور دینداروں کو بے وقوف سمجھ کر ان کی تضییک، غیر اسلامی تہذیب کو اپنا کر کفری سماج سے رغبت ہی زوال کا سبب تھا۔ یہ مذہب ہی تھا جس کی رسی کو مضبوطی سے تھاے رہنے کی وجہ سے مسلمان حقیقی معنی میں پھر سے غلطتوں کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یقین کے سوا کوئی اور طاقت اور مضبوطی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا تبادل صرف غربت، رسولی اور جہالت میں ڈوب جانا تھا۔

امام احمد رضا کے منصوبہ کا اصل مقصد سیاسی یا سماجی نہ ہو کر مذہبی تھا اور یہی تجدید اسلام تھی۔ اس منصوبہ کا مقصد ان مسائل دنیا کے حل کی تدبیر تھا جن سے مسلمان دوچار

تھے لیکن مقصد مخصوص دنیوی نہیں تھا بلکہ مذہبی تھا۔ مذہب اس منصوبے میں محض حادثاتی نہیں تھا بلکہ اس کا مرکزی پہلو تھا۔ امام احمد رضا کے لئے اسلام صرف ایک نسلی پیشان یا فرقہ وار از قومیت نہیں تھا بلکہ ایک دین تھا اور مقصد تھا اس منصوبہ پر عمل کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کی تعمیر تو، اور یہی تھا اسلام کی تجدید اور اس کا مکمل قیام تو مسلمان بدنصیب جماعت نہیں تھے جیسیں اپنے مسائل سے گلوغل اصلی کی ضرورت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک حقیقی الٰ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمیونٹی کی تعمیر کر سکتے تھے اور اس طرح اسلام کی تعمیر تو کر سکتے تھے۔ اس منصوبہ پر عمل درآمد کا خاص وسیلہ مذہب تھا اور یہی اس منصوبے پر عمل درآمد کا خاص مقصد تھا۔ ہر طرح سے مذہب ہی کو اس منصوبہ میں اولیت حاصل تھی۔

اگر ہم اس چار نکاتی پروگرام کے مختلف اجزاء پر مذہب کے روی رخور کریں اور بھالی مسلم کی حکمت عملی پر توجہ دیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس منصوبہ میں مذہب کس طرح مرکزیت کا حامل ہے۔ ہر طرح سے مذہب ہی اس منصوبہ کا مذہبی کردار ہے۔ اس منصوبہ کا پہلا حصہ مشلاً علماء اور اولیاء کی قیادت والی مسلمانوں کی سیاسی آزادی تھا۔ لیکن بلاشبہ مذہب پر پابندی اور حیات کے مذہبی نقطہ نظر کے بغیر علماء اور اولیاء اور بہمانی کسی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر مقصد صرف فرقہ واریت پر مبنی ہوتا تو سیاست داں اور صحفی بھی قائد ہو سکتے تھے۔ علماء اور بالخصوص اولیاء اکی مذہب سے گہری وابستگی مسلم تھی۔ اس طرح مذہب ہی کیلئے ہے۔

منصوبہ کا دوسرا حصہ معاشی تھا۔ یعنی مسلمانوں کو اپس میں خرید و فروخت کے کاروبار اور آزاد مسلم اسلامی بنکاری نظام کے ساتھ خود مختار مسلم معاشرت کا نشوونا جب یہ خود مختار معاشرت پرداں چڑھ گئی ہوتی تھی مسلمان اس سے بڑا فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ پرداں چڑھتا مسلمانوں کو تجارت اور بینکنگ میں مسلمانوں ہی کو ترجیح دینی چاہئے تھی۔ جس کا مقصد مسلموں کو ارادی طور پر اولیت دینا ہوتا۔ یعنی اسلامی بینکنگ کے قیام میں شریعت کی اولیت! مذہب اس طرح یہاں بھی کیلئے ہے۔

اس منصوبہ کے معاشری پہلو کا ایک بڑا حصہ اچھے کاروبار کا فروع تھا۔ یعنی امام احمد رضا کے مطابق بہتر اسلامی تجارت جو مذہبی اصولوں اور شریعت پر مبنی ہو۔ گویا کہ دیندار نہ سوداگری اور بیجا رقم کی بر بادی اور فضول خرچ سے اجتناب۔ اور معاشری اور سماجی امور میں معاملات اور حجگڑوں کی علماء و اولیاء کے ذریعہ فیصل کرانا اور تمام کاروباری فروخت و اقرار وغیرہ کا شریعت مطہرہ کی نگرانی میں بتاؤ۔ یہاں بھی مذہب ہی کلید ہے۔

محض معاشری فروع خالصہ سیکور بھی ہو سکتا تھا مگر امام احمد رضا کے نظریہ کا معاشری فروع مذہب اسلام و شریعت اور اولیاء و علماء سے زبردست اور گہری ابتنگی کا طالب تھا۔ مذہب اس طرح یہاں بھی بنیادی کلید ہے۔

پورے منصوبہ کا مقصد تھا کیونہ کافر و غیر کافر صورت میں مذہب کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کے ارکانِ خسمہ بذاتِ خود مقامی اور بین الاقوامی طور پر کیونٹی کی تشکیل کرتے ہیں۔ ساجد جہاں روزانہ پانچ وقت نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں مسلمان آپس میں بلتے جلتے ہیں اور یہ ان کے مابین بھائی چارہ کی تعمیر کرتی ہے۔ ساجد مسلمانوں کی علیحدگی اور تنہائی کو مٹاتی ہیں۔ مقامی مسلمان روزانہ کئی بار ملاقات کرتے ہیں۔ مسجد اور اس میں جاری مکتب پھوؤں کو خاص طور سے کیونٹی میں شمولیت دیتے ہیں۔ ہر رات نماز میں مسلمانوں کا اجتماع رمضان میں قوم کے لئے ایک خاص جوش کا وقت ہوتا ہے۔ عیدین بھی پوری کیونٹی کو ایک وقت میں ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں اور قوم کی اجتماعیت کا انہصار کرتی ہیں۔ حج بین الاقوامی مسلم برادری کی تعمیر کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک امت بننے کا شعور عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیونٹی کے ناداروں کی مالی امداد کے ذریعہ پوری قوم کو اتحاد کی ڈور میں باندھتی ہے۔ بہت سے گمراہ مسلمانوں ان ارکانِ خسمہ کو محض مذہبی ہی کہتے ہیں۔ لیکن حقیقتہ قومیت کی تشکیل میں اس ارکانِ خسمہ سے زیادہ کوئی اور چیز کا رگر نہیں!

اور سلاسل طریقت بہت ہی قوی انداز میں قویت کی تشکیل کرتے ہیں۔

طریقت اسلام کا ایک اہم معاشرتی ادارہ ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس نے اسکو لوں اسپتا لوں، نوجوانوں کی انجمنوں اور خیراتی اداروں کے توسط سے کمیونٹی کے فروغ کا اہم کردار نبھایا ہے۔ طریقت میں ذکر کی مخالف ٹھیک اسی طرح کمیونٹی کے اتحاد کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ جس طرح مساجد، پیران طریقت سلسلہ کے پیر بھائیوں اور بہنوں کو پوری دنیا میں ایک دوستکار کے اتحاد کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں۔

سنیتیں بھی کمیونٹی کے اتحاد کا کام کرتی ہیں۔ سلام و مصافحہ کسی اور شے سے زیادہ قومی اتحاد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شادی سے لیکر تدبیح و تہک کی تمامی مذہبی امور طاقتور سے طاقت و رکمیونٹی کی تشکیل کرتے ہیں۔

ایک سیکولر مزاج شخص کی بحث کے مطابق مسلمان صرف نسلی پہچان کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل کر سکتے تھے اور آپسی مفاد اور عام شعور کی بنیاد پر سماجی اور معاشری فروغ کو کا نیا ب بناسکتے تھے۔ جواب آسان ہے کہ سیکولر سٹ صرف نسلی پہچان کی بنیاد پر فروغ قومیت کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام اس سے سوگنا بہتر یہ فریضہ انجام دیتا ہے۔ مذہب کے توسط سے کمیونٹی کا سیاسی اور سماجی فروغ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور لوگ جتنے زیادہ دیندار ہوں گے کمیونٹی اتنی ہی ستھکم ہوں گے۔

جیسا کہ پہلے بتایا گیا مسلمانوں، شریعت مطہرہ، دینی اداروں، عالموں اور دلیوں نیز نبی کوئین صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری والستگی اور محبت ہی اس منصوبہ کو چلانے کی کیلید ہے۔ اور یہ محبت کے جذبے صرف مذہب سے ہی پیدا ہوں گے۔

اب ہم اس منصوبہ امام احمد رضا کے اہم ترین خدو خال کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہے سیکولر سٹ سوچتے ہیں کہ مذہب، سیاسی، سماجی اور معاشری زندگی کی دشمن ہے اور اس کا تعلق صرف عبادات اور اخروی زندگی سے ہے۔ یہ موجودہ زندگی اور عملی سرگرمیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا کے منصوبہ کے مطابق لوگ جس قدر دیندار ہوں گے ان کی سیاسی، سماجی اور معاشری شعبہ ہائے زندگی اسی قدر کامیاب ہوگی۔ مذہبیت منصوبہ رضا کا صرف ایک جزو نہیں بلکہ کامیابی کی بنیادی کیلید ہے۔

اور یہی سبب تھا کہ ہندی مسلمان ابتر حالت میں تھے۔ اور ان کی تضیییک ہو رہی تھی عہد امام احمد رضا میں لوگ مذہب کو پس پشت ڈال کر کفار کے پیچے دوڑ رہے تھے کیونٹے، اس کی معیشت اور اس کا سیاسی ڈھانچہ گرا پڑا تھا اور وہ کنگالی کی حالت میں تھے۔ مذہب کے سوا اور کوئی چیز انہیں بحالی نہیں عطا کر سکتی تھی نہ ہی انہیں متحد رکھ سکتی تھی۔ ان کی کوئی آزاد اور خود سخت ارتہ نہیں تھی نہ ہی قیادت نہیں تھی نہ ہی قیادت کا کوئی مقصد اور شعور تھا۔

اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم مسائل کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے وہ قطعاً درست ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں ہماری پالیسی بالکل واضح ہونی چاہئے کہ ”اسلام“ ہے شک اس کا جواب ہے اگر وہ امام احمد رضا کے شیعہ کے منصوبہ کا حصہ ہے۔ صرف اور صرف اسلام ہی اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ اس کی اساس ہے اصل عقیدہ و ایمان و روز نیجہ غربت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

اس منصوبہ میں مذہب متعدد طریقوں سے اعتماد کرتا ہے۔ عصرِ جدید کے تقاضے بڑے سخت ہیں اور ان پر صرف اسلامی تہذیب کے فروغ سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر علماء اور اولیاء احترام کے لائق سمجھے جاتے، انہیں بلند منصب دیا جاتا تو وہ خود تعلیم اور ذہانت کے فروغ سے دنیوی مسائل سے مقابلہ کرتے۔ ایک عالم کو آج کی گڑبرڑی میں بے پایاں ذہانت کا پیکر ہونا چاہئے۔

مسلمانوں کو صرف جوش و عقیدہ ہی تمام خوفناک مغرب زدگی اور عالم مغربی تہذیب سے محظوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ بہودہ اور تباہ کن تہذیب اپنے پیروؤں کو برپا کر دیتی ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو منشیات کی بریلت اور اُوارگی سے صرف دل میں چکنے والی عقیدہ کی روشنی ہی اس آفت سے بچا سکتی ہے۔

مسلمانوں کی سیاسی آزادی بھی اس جوش عقیدہ پر منحصر ہے۔ روحانی آزادی بہر حال حقیقی آزادی ہے۔ مذہب مسلمانوں کو خود اعتمادی عطا کرتا ہے۔ ایک طاقت ور یہ کوڑ حکومت سے مقابلہ کرنے کا، اور اسے نظر انداز کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔

سیکور اسٹیٹ سے مقابله آرائی کے لئے اعتماد کے ساتھ ساتھ ایسے قائدین بھی چاہیں جو زبردست رسوخ اور عوامی حمایت کے حامل ہوں۔ مذہب قائد کو زبردست اختیار اور طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اپنے سامنے جھکا سکے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حضور عزت پاک رضی اللہ عنہ کس طرح خلفاء پر غالب ہونے کے لائق ہوئے تھے۔ لائق علماء اور ادیاء کو مسلمانوں کی سیاسی آزادی دلانے کے لئے بے پایا ذہانت اور رسوخ کا ماک ہونا چاہئے۔

اور سیاست کی ابتداء لاکھوں عوام کی تنظیم سے ہوتی ہے۔ اور ان لاکھوں میں مذہب تنہا مسلمانوں کو تحریک دے سکتی ہے۔ آج برطانیہ میں صرف ایک سچا مذہبی اور فاضل عالم دین مسلمانوں کے لئے بے باکی سے حکومت کے سامنے بول سکتا تھا کہ جس طرح سے بیباکی کا اظہار ایک معمولی سیاسی شخص ایڈ بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی جدید دنیا میں بیشتر کیونٹیاں اپنے اتحاد و یک جمیعت کے معاملے میں صرف حکومتی اور قومی نظریات پر اعتماد کرتی ہیں اور صرف مذہب ہی اس طرح کے آدرسوں کو پیغام کر سکتا ہے سختی اور کفایت کے ساتھ اور ان نظریات سے آزادی حاصل کرنے کا بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے حقیقتہ اللہ کی طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ ۱۹۱۲ء کا منصوبہ

پچ میں اسلام کی تجدید ہے۔ کیونٹی کی توسعے کے لئے مذہب ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر مذہب کی روشنی حاصل ہے تو یہ ان لوگوں کو کیونٹی میں واپس لائے گا جو عقیدہ کھوچکے ہیں اور پہلے کبھی مذہبی نہیں تھے۔ برطانیہ میں اسلام اکثریت کے مذہب کی حیثیت سے تمہی آسکت ہے جب ان کی زندگیوں سے ایمان کا نور چکے گا۔ مذہب ہی وہ مضبوط قلعہ ہے جو مسلمان کو آج کے بھیانک معاشرہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

۱۹۱۲ء کا منصوبہ اہم ترین منصوبہ ہے اور مذہب اس کا اہم ترین جزو ہے۔ اگر مسلمان مذہبی ہوں گے تو وہ آزاد اور خود محنتدار ہو جائیں گے۔ جب تک وہ مذہب کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھا متنے پچ میں آزادی یسوس نہیں آسکتی۔ آج مغرب کی طرف توجہ اور مغرب زدگی ۱۹۱۲ء منصوبہ میں عمل درآمد کے لئے خاص سنکڑہ بننا ہوا ہے۔ یقیناً مسلمان

۶۰

یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب میں خوش آمدید نہیں کہے جاتے۔ لیکن اگر اس منصوبہ میں مذہب کو اولیت دی جاتی ہے تو کوئی طاقت اس کی مزاحمت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سیاست اور معیشت پر انحصار مسلمانوں کی سخت غلطی ہے جبکہ اصل طاقت اسلام خود ہے۔ امام احمد رضا کے مطابق مذہب کو اولیت دینے سے ہی سیاسی، معاشرتی اور معاشی بحالی ممکن ہے۔

مسلمان جن مسائل سے دو چار میں انہیں صرف اسلام ہی حل کرے گا۔ ان کے اعتقاد، شعور اور احساس کی کمتری، تعصب سے مقابلہ آرائی کا کیا لایا پن، فتحی اور کمیونٹی کی سقیم حالت، حقیقتی بین الاقوامی بھائی چارے کی کمی وغیرہ سب کو صرف اسلام ہی ختم کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ مسلمان اسلام کی طرف رجوع کریں اور <sup>۱۹۱۲ء</sup> منصوبہ پر عمل پیرا ہوں۔

لیکن اس منصوبہ کا مقصد صرف دنیوی کامیابی نہیں ہے۔ مقصد ہے پوری اسلامی زندگی کو اس کی تماست مسروتوں اور لوازمات کے ساتھ واپس لانا۔ یعنی مقصد ہے اس پنجی قومی زندگی جیسے کی جہاں طریقت پر وہاں چڑھے۔ جمعہ اور عیدین مل جل کر ادا کئے جائیں۔ رمضان میں مل جل کر روزے رکھیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صوفیاء اور علماء کی تیادت میں جلوس نکالے جائیں۔ رزق حلال، کار و بارزیست اور صحیح اسلامی اداروں کو شریعت کی رو سے چلا بایا جائے۔ صرف اسی طرح کی کمیونٹی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور روشنی کی طرح چکے گی۔ اور یہ صحیح معنوں میں اس زمین پر خدائی معاشرہ ہو گا۔ نہیں اور گردہ ہی عصیتیں ختم ہو جائیں گی

<sup>۱۹۱۲ء</sup> کا منصوبہ جیسا کہ ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں اپنے مرکزی حصہ کے ساتھ عمومی مذہبی تحریک کا مستقاضی ہے۔ لیکن عام طور سے اس وقت اسلامی کہی جانے والی تحریکوں سے یہ جدا گانہ ہو گی۔ وہ کمیونٹم اور فسطایت سے نقل کی گئی تحریک ہے جس میں مذہب بعد میں ہے۔ ان کی تحریک میں سیاسی ایجی ڈیشن اہم ہے۔ اور خصوصاً اس تحریک میں جسے اسلامی سیاسی پارٹیاں چلاتی ہیں۔ اس میں صرف چند پارٹی ٹیمبر ان

اور پیغمبران ہی کا کام ہوتا ہے۔

۱۹۱۸ء ممنوعہ ان سب سے بالا پوری کمیونٹی کی ایک خالص مذہبی تحریک ہے وہندہ یہ ہر فرد کی تحریک ہے۔ یہ علماء، جہلوا، عوام و خواص، بالغ، نابالغ، عودت، مرد غریب و ایسی ہر ایک کی تحریک ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی مذہبی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ لوگ صرف اسی وقت زیادہ سے زیادہ مذہبی اور اسلامی ہو سکتے ہیں جب وہ اس منصوبہ کی لازمی متفاضلی سیاسی، معاشی اور سماجی سرگرمی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ اسے چلانے کے لئے مذہبی بن کر ہی سامنے آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک خاندان مذہبی ہو جاتا ہے تو وہ مسجد بنانے کے لئے اور حلال کھانے وغیرہ کے لئے کمیونٹی کے قریب ہی رہنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ یا اگر وہ تاجر ہے اور مذہبی بن جاتا ہے تو اپنے کار و باری معاملہ میں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ یا ایک بچہ مذہبی بننے کے لئے خود کی زندگی کو تعلیم دین کی ضرورت کے لئے وقف کر دے گا۔

اس مقصد کے تحت کوئی بھی آج سے یا بھی سے اس منصوبہ پر عمل درآمد کر سکتا ہے اسلام اس انقلاب کے بعد کی چیز نہیں بلکہ یہ اسلام ہے جس کے ذریعہ جلد سے جلد بہتر نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ آج ایک خاتون مسلم دو کانڈا سے سودا خریدنے کا فیصلہ کر کے زیادہ مذہبی بن سکتی ہے کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جسکی وہ پیروی کرتی ہے اور جو یہ کھانا بے کر مسلمین دشمنات اس کے بھائی ہیں ہیں۔

”مذہب پہلے آتا ہے پھر کوئی بھی شے بغیر کو شش کے اس کی پیروی خود بخود کرنی ہے۔“ امام احمد رفانت اپنی پوری زندگی تحفظ اسلام اور کمیونٹی کی خاطر صرف کی۔ اور انہوں نے ہزار سارے قدیم سنتوں کا سیکولرٹ اور مگر اہ مسلمانوں کے حملوں سے تحفظ کیا۔ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب اور مذہبی زندگی کے معنی کیا ہیں تو ہمیں امام کی زندگی اور ان کے کارناموں کا مطالعہ کرنا ہو گا اور ہم اپنے سوال کا جواب پا سیں گے۔ اپنے عہد میں امام احمد رفانتے دہشتیت، کیوں زم اور سائنس کے حملوں سے محفوظ رکھ کر اصل اسلام پیش کیا۔

کچھ لوگ امام احمد رضا کے نظریات سے یہ بحث کر سکتے ہیں کہ اصل اسلام کیا تھا اور بلاشبہ آج کے عہد میں مذہب کو اس قدر اہمیت اور مرکزیت کوئی نہیں دے سکتا جس طرح امام احمد رضانے دیا۔

امام احمد رضا کے منصوبہ میں اسے چلانے کے لئے دو طرفہ طور پر مذہب ہی مرکز ہے اور یہی اس منصوبہ کا مقصد ہے۔ کسی نے مذہب کو اس طرح کا منصب و مرتبہ نہیں بخشتا جیسا امام احمد رضانے۔ سیکولرستوں نے مذہب سے اس حد تک بخات حاصل کر لی جس حد تک وہ بخات حاصل کر سکتے تھے۔ کچھ نے کمیونٹوں کی طرح لے دے کر اسے مٹا دالنے ہی کی کوشش کی۔ کچھ نے اسے "خالصۃ ذاتی معاملہ" میں گھٹانے کی سعی کی۔ سرید احمد خاں جیسے مسلمانوں نے ان سیکولرستوں کی پوری لوری پیروی کی اور اسلام سے بحیثیت کیونٹی چھٹکارا پانے کی خواہش کی اور مغربی تہذیب کو اپنایا۔ اور اسی طرح ان جیسے لوگوں نے مذہب کو زندگی کے امور سے دور کرنے کا اصرار کیا۔ تبلیغی جماعت جیسے لوگ خود کو بہت ہی مذہبی ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن مذہب انکے لئے صرف ایک ذاتی شے ہے۔ اور ان کا مقصد مسلم قومیت والی زندگی کو چھوڑ کر جزء سوسائٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہے۔ بہت سے مسلم فرقے ظاہراً بہت مذہبی دلکھائی پڑتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد خود کو مسلم کیونٹی سے دور ایک عالمی فرقہ کی حیثیت سے رہنا ہے۔ کیونکہ وہ بہت تنگ نظر ہیں۔ وہ اس دنیا میں اسلام اور مسلموں کو ایک جگہ نہیں دے سکتے۔ ان کا مذہب ایک بخی معاملہ ہے جسے وہ ایک کلب کی طرح جیسا کہ انکا فرقہ ہے چلاتے ہیں۔

آج چند مسلمان جو اسلامی انقلاب چلانا چاہتے ہیں اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں سے ان کی حمایت کی خاطر زبردست مذہبی اپیل کرتے ہیں۔ لیکن وہ اکثر مسلمانوں کی زندگی سے مذہب کے مقدار کو کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ دین کے پانچوں ستون کو پسند نہیں کرتے اور ان مسلمانوں کو بدق تعمید بناتے ہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو مذہب چھوڑ کر سیاست کی طرف موڑنا چاہتے ہیں جس

اور ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو اپنی پارٹی کا ممبر بنانا اور پارٹی کے لئے کام لیانا جو دراصل لیین کی پارٹی کے طرز پر بنائی گئی ہے۔ اس حالت میں ایک مسلمان روزہ نماز کے بجائے پوسٹر چیپ کا برہا ہوگا اور گھوم گھوم کر نفرے لگا رہا ہوگا۔ دراصل ان کا منصوبہ مکمل مذہبی زندگی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پورے ملک کی آبادی کو فیکٹریوں اور فارموں میں کام کرنے اور فوج میں جنگ کرنے کے لئے اسی طرح مامور کر دیا جائے گا جس طرح اسلام نے روسیوں کو مشینی انداز میں یہ امور انجام دینے کے لئے سیل کی طرح جوت دیا جاتا تھا۔ اب مذہب کے لئے کوئی موقع نہ ہوگا اور نہ ہی ذکر و نکر اور طریقیت کے لئے کوئی جگہ ہوگی۔ لہذا ان اسلامی جماعتوں کے پیروؤں کے لئے ایک نفرہ ہوگا اور زندگی میں مذہب کا کوئی مقام نہ ہوگا۔

آج اس طرح کی مسلم سیاسی جماعتوں میں جو مسلمانوں سے دوٹ کی اپسیل کرتی ہیں اور انھیں صرف رائے دہندوں کی جماعت بنانا چاہتی ہیں جو انھیں دوٹ دیں اور ان کی حمایت کریں تاکہ وہ ممبر پارٹی بن سکے اور صاحب اختیار و اقتدار بن جائیں۔ وہ مسلمانوں کو مذہبی ہیں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف اس سے باخبر رہیں کہ وہ کون ہیں؟ اسلام ان کے لئے صرف ایک شلی پہچان اور فرقہ دارانہ قومیت ہے اور بس! مسلمان جب تک ایکشن کے موقع پر انھیں دوٹ دیتے ہیں انھیں اس کی ہرگز پرواہ نہیں ہوتی کہ مسلمان شرعیت پر عمل پیرا ہیں یا کسی بھی طرح سے مذہبی ہیں کہ نہیں؟

لیکن دوسری جانب ۱۹۷۲ء کا منصوبہ لوگوں کو زیادہ مذہبی بنانے کے لئے امیدافراہ ہے۔ اگر علماء و اولیاء کی قیادت والا مسلم جزیرہ پر وان چڑھتا ہے پوری تہذیبی خود مختاری کے ساتھ تو لوگ زیادہ مذہبی ہو جائیں گے۔ مذہبی یہڈر ہوں گے۔ سیاسی و معاشی زندگی مذہب سے مرکوز ہوگی اور مذہب دن بدن نکھرتا جائے گا جو کسی بخی طرح کی چیز یا محض نیشنلزم نہ ہو کر صحیح معنوں میں اسلام ہوگا۔ اولیاء اور تصوف لوگوں میں روحانیت اور پاکیزگی بھر دیں گے۔

اگر ۱۹۱۲ء مخصوصہ عمل میں لا یا جاتا تو زندگی اور مذہب ایک ہوتے۔ اسلام کی حقیقی تجدید ہوتی اور ایک سچے مذہب کے ساتھ زندگی پوری طرح مذہبی اجتماعیت کے ساتھ بسر کی جاتی۔

یہ کیونٹی کس طرح روشن اور منور ہوتی اگر مسلمان صرف دولت مدد اور باختیا ہوتے۔ وہ آج اسی طرح سے نفرت و عداوت کے شکار ہوتے جس طرح امریکہ میں یہودی ہیں۔ لیکن اگر مسلمان صحیح معنی میں مذہبی ہوتے، ان کامعاشرہ مذہبی ہوتا تو وہ اپنے مذہب کی خوشنمای کے سبب اسی طرح سراہے جاتے جس طرح آج مسجدہ ریاست ہائے امریکہ اپنی دولت اور آزادی کے لئے سراہا جاتا ہے۔

اور یہ مخصوصہ امام احمد رضا اس جدید دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک عجیب غریب عطیہ ہے۔ وہ کس قدر بے پایاں ذہین تھے گزشتہ دو صدیوں میں مذہب مرسا گیا تھا۔ بہت سے لوگ دہراتے ہو گئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ المیہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان اپنے مذہب پر کامل عقیدہ نہیں رکھتے اور زہری دنیوی زندگی میں مذہب کو بر تھے ہیں۔ عام طور سے مذہب کو دہرات کی بنیاد پر مذہب سے زیادہ نسلی ہو گئی ہے۔ عیسائیوں نے جدید ہے۔ یہودیت برلنیت کی بنیاد پر مذہب سے زیادہ نسلی ہو گئی ہے۔ اور اسی لئے اب دہ عورتوں سیاست اور سماجی نظریے کے سامنے خود کو سپرد کر دیا ہے۔ اور اسی لئے اب دہ عورتوں اور نسایت کو عیسیٰ علیہ السلام کی بُنیت زیاد خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مغربیت کا مطلب ہے زندگی سے مذہب کو پورے طور سے مٹا دالنا۔ جو مادیت تلذذ اور سیدھیا کی تلاش سے مغلوب ہے۔

امام احمد رضا کا مقصد تھا دین و ملت کی بحالی اور پاکیزہ مسلم معاشرہ کی تعمیر نو۔ اگر رضا کا ۱۹۱۲ء مخصوصہ کامیاب ہوتا ہے تو دنیا میں ایک سچے مذہب کی واپسی ہوتی ہے کہاوت ہے چونکہ مذہب مر جکا ہے۔ اس لئے انسان مر جکا ہے اور انسانیت اپنی روح کھو جکی ہے اور اسے زندگی صرف عبادت سے پر دولت اور اقتدار سے مل سکتی ہے۔

http://t.me/Tehqiqat



